



مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝

الْحُرُوفُ الْعِمَائِيَّةُ

الْمَعْرُوفَةُ

دُعَا سِدْقِي

جِسْمِ

مَعَهُ دِيكَرَادِ عِيَّةُ مَا تَوْرَهُ

حَسْبُ الْإِرْتِسَادِ

وَسَنَدُ فَرْدِ قَلْبِ تَنْزِيهِ عَالَمِ حَيْبِ نِيْظِهَا بِسَدَا بَرَكَاتِهَا
قَلْبِ الْوَقْتِ الْعَصْرِ حَضْرَةَ قَلْبِهَا جَبَلِ عَالِي مَلِكِ شَاهِ ضَا جِسْتِي مِي حُرِّي مَنَتِ بِهَمِّ لِيَا

سجادہ نشین بی بی نو، حال پاک پتن شریف

شایع کیا گیا

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ



مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ط

الْحُرُوفُ الْعِمَامِيَّةُ

الْمَعْرُوفَةُ

دُعَاةٌ مَسْمُوعَةٌ

بِحَسَبِ

مَعَهُ دِيكَرَادِ عِيَّةٍ وَآثُورَةٍ

حَسَبِ الْإِرْشَادِ

فِي الْوَقْتِ الْعَصْرِ خَيْرٌ مِنْهُ عَلَى مَا شَاءَ ضَا بَسْتِي فِي فُحْرِي مِنْتْ لَمْ لَعِبَا
بِحَسَبِ نِظَامِ دَا بَرَكَاتِ لَمْ

سَجَادَةُ نَشْتِينِ بَسِي نُو، عَالِ پَاكِ تَنْ شَرِيفِ
شَايِعْ كِيَا كِيَا



394 66

طبع اول: ۸-۱۳۹۳ھ مطابق ۸ اگست ۱۹۷۳ء

طبع دوم: ربیع الاول ۱۳۹۵ھ مطابق مارچ ۱۹۷۵ء

تعداد _____ ایک ہزار (۱۰۰۰)

پریس _____ دین محمدی پریس لاہور

مقام اشاعت _____ پاک پتن شریف

کاتب _____ منشی خوشی محمد ناصر قادری خوش رقم بلندھری

ناشر _____ الحاج میاں محمد اصغر صاحب بھاول نگر

صلیٰ کاپتہ

۱- صاحبزادہ الحاج سید مسلم نظامی صاحب، اردو منزل پاک پتن شریف

۲- الحاج میاں محمد اصغر صاحب تیسرا عظیم بھاول نگر،



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اَمَّا بَعْدُ - مرشدنا حضرت مولانا الحاج خواجہ علی محمد شاہ صاحب
مظلم العالی سجادہ نشین بسی نون شریف کے ایما پر حرز میاتی کی فارسی و عربی شرحیں اور
سلسلہ عالیہ شتیہ نظامیہ سراجیہ کے خواجگان کا معمول بہ نسخہ دعائے مذکور پہلے ہی
علی الترتیب ۱۳۸۳ھ، ۱۳۸۶ھ اور ۱۳۸۷ھ میں شائع کئے جا چکے ہیں۔ اب حضرت
کی اجازت سے اس عظیم دُعا کا وہ نسخہ افادہ سالکین کے لئے شائع کیا جا رہا ہے جو سلسلہ
عالیہ شتیہ نظامیہ فخریہ کے مشائخ کا معمول آرہا ہے اور جس میں دُعاے حیدری، چول اسما،
دُعاے معنی اور دُعاے سیفی معہ دیگر ادعیہ شامل ہیں۔

۲۔ یہ نسخہ جو اب شائع ہو رہا ہے حضرت مولانا صدر کو اپنے مشائخ اور اساتذہ سے
پہنچا ہے اور کوئی چھبیا سٹھ سال سے حضرت کے روزانہ معمولات میں شامل ہے۔

۳۔ اس عظیم دُعا کے پڑھنے کے آداب و شرائط تفصیل سے اس فارسی دیباچہ میں
دیئے گئے ہیں جو حضرت موصوف کے ذاتی نسخہ سے درج ذیل کیا جاتا ہے۔ کوئی صاحب
اس دُعاے بزرگ کو اس دیباچہ میں دی گئی شرائط و آداب کی پابندی کے بغیر نہ پڑھیں
کہ اس میں عظیم خطرہ ہو سکتا ہے۔

۸۔ رجب المرجب ۱۳۹۳ھ

۸۔ اگست ۱۹۷۳ء



ناشر

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دِسْتِجَا

بدان ارشادک اللہ تعالیٰ کہ دُعائے سیفی افضل الادعیہ و اشرف العزائم
و مجربۃ الاجابت و کثیر البرکت است۔ آیتے از آیات خداوند و اہیب العظمت
و در او اسم اعظم است و اسرار عجیب و آثار غریب بدرجہ اتم۔ و ہفتاد ہزار ملائک و
ہفتاد ہزار جن خادم و تابع اس دُعائے شریف اند۔ ہر گاہ کہ خوانندہ دُعَا اللّٰهُمَّ
اَنْتَ اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ می گوید ہفتاد ہزار ملائک و
ہفتاد ہزار جن در سجدہ رفتہ می گویند کہ الہی حاجتِ این بندہ بر آ۔

۲۔ درین دُعائے شریف را موافق شمار حروف کلمہ بست و چہار اسم اند۔ چنانچہ
از حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ مروی است۔ سیف اللہ و سهم اللہ و
صمام اللہ و عین اللہ و قدرت اللہ و ید اللہ و برہان اللہ و حرز اللہ الاعظم
و حرز البحر و البر و حرز مرتضوی و حرز المحققین و دُعائے قاضی الحاجات
و حرز الیمان و دُعائے سیفی و برہان اللہ و قسم اللہ و نور اللہ و وجہ الحق و
قرب الحق و یشاق الحق و حصن الاکبر و محل الانوار و تشرح الآثار۔

۳۔ اکثر اولیاء اللہ ازین دُعائے شریف فیاض مطلق یافتہ بہرہ مند گشتہ اند
اگر شروع کردن این دُعَا در عشرہ اول یا دوم یا سوم آیینہ یا شمشیر
یا تیر یا کمان در خواب بیند، من اللہ اجازت لفظی و معنوی یافتہ باشد۔

اما اول از استاد که روایت سلسله درست داشته باشد، اجازت بگیرد تا این
 اسرار و عالم رویا معاینه کند۔ اگر آئینہ در خواب بیدار فتح امور دینی است و اگر
 شمشیر یا تیر یا کمان یا نیزه بخواب بیدار فتح امور دنیوی است۔ بہر کارے کہ این
 علمے شریف بخواند بہ سرعت مقرون با اجابت گردد و بزرگان ارباب فیض و
 ہدایت و مرشدان صاحب دعوت فرمودہ اند و در سراج السالکین و جواہر خمسہ
 و مخزن دعوت و خزانتہ المحققین و سوائے در دیگر کتب معتبرہ آورده اند کہ در
 خواندن اسماء و ادعیات چند شرائط بر خود لازم باید گرفت کہ بے لزوم آن ہرگز
 فائدہ نہ رسد و ہم ضرر است۔

شرط اول :- آن کہ اجازت بگیرد از استادے کہ سلسلہ روایت درست و
 صحیح داشته باشند۔

شرط دوم :- آن کہ تعظیم اسم بسیار کند۔

شرط سوم :- آن کہ صدق بر اسم و اجازت استاد بسیار دارد۔

شرط چهارم :- آن کہ در طہارت تن و جامہ ساعی باشد۔

شرط پنجم :- آن کہ غذائے پاک بقدر قوت بخورد۔

شرط ششم :- آن کہ در ایام مواظبت و روزه بعضی چیز البتہ احتراز دارد۔

چنانچہ گوشت گاؤ و ماہی و سیر و بصل و ترَب خام۔ در ایام دعوت ترک

جلالی و جمالی و مکروہات و محرمات لازم آمدہ است۔

شرط ہفتم :- آن کہ وقت خواندن معین دارد و تجاوز نہ کند۔ اگر پیش از وقت

شروع بخواند باک نیست۔

شرط ہشتم :- آن کہ وقت خواندن بخورد روشن دارد و ہمہ حال بعطریات

غیر حیوانی معطر باشد۔

شرط نہم :- آل کہ وقت آغاز و رد از بزرگان طریق استمداد ہمت نماید۔
 شرط دہم :- آل کہ وقت خواندن عجز و انکسار بہ درگاہ پروردگار بسیار کند و بحضور دل بخواند۔
 شرط یازدہم :- آل کہ واردات را کہ برداعی ظہور کند از نامحرم پوشیدہ دارد
 مگر از استناد مخفی نہ کند و عند الضرورت از محرم این کار نہ پوشد۔

۴- اکنون طریق خواندن دُعائے سیفی شریف دریابد۔ کہ این دُعائے عظیم القدر
 تمام بخواند۔ ہر چند کہ تعظیم کُنت بیشتر فائدہ یابد۔ این دُعائے نصاب دارد۔
 یکے اصغر دوم صغیر سوم کبیر۔ ہر نصابے کہ بر خود اختیار کردہ چہل حصّہ برابر
 کردہ در چہل روز بخواند۔ اگر حصّہ زیادہ آفت در آخر روز بخواند۔ بہ نیت اصغر
 چہل و یک بار، و بہ نیت صغیر چہار صد و چہل و چہار بار، و بہ نیت کبیر یک
 ہزار و یک بار، با ترک جلالی و جمالی و مکروہات و محرمات احرامی و صوم و صلوة
 و خلوت و منزلہ و حصار بخواند۔ اگر نصاب اصغر ادا کند باید کہ با شروط مذکورہ
 در یک مجلس چہل و یک بار بخواند یا در چہل روز چہل بار بخواند۔ بروز آخر
 گو سفند سُرخ رنگ ذبح کند و با سر انجام بہ فقر اہد بہد و بعد ہر نصابے کہ ادا
 کند ہر روز بہ طریق ورد یک بار بخواند ہا شد رُو بہ قبلہ کردہ و بہ آداب تعظیم
 تمام۔ وقت خواندن بہ طرف کسے اشارہ ہم نہ کند۔ متوجّہ بہ قبلہ خیال در خواندن
 دارد و بہ صحت بخواند۔ فضیلت و عظمت از تحریر و تقریر فزوں تر است۔ ہر گاہ
 کہ این دُعائے جبرائیل علیہ السلام آوردہ گفت یا رسول اللہ! این دُعائے بہ منافقان
 میاموز کہ درین اسم اعظم است و این دُعائے بر تصفیّہ قلب، و قرب حق و
 استجابت دُعائے خوانندہ این ہرچہ از حق سبحانہ تعالیٰ درخواست نماید برائے
 تقرب و سلاطین و اُمراء و جلب قلوب و دوام دولت و زیادتی عمر و اولاد
 صالح و حفظ خانہ و دفع شرّ جنّ و انس و بلیات ارضی و سماوی و حفظ در

حضرت سفر و شفا کے امراض صوری و معنوی و دفع اعدائے ظاہری و باطنی
تاثیر تمام دارد و بسیار اولیاء اللہ از خواندن این دُعای فیض از فیاض مطلق
یافتہ اند و بہ کشفِ باطن رسیده اند۔ ہر کہ این دُعای با جازتِ اُستاد و صدقِ
دل و بہ آدابِ کمال بخواند ہفتاد ہزار ملائکت بحکمِ الہی محافظِ او باشند و ہر کہ این
دُعای یک بار بخواند ثوابِ عبادتِ یک سالہ یابد و حقینِ علیٰ ہذا و در سالیکہ
این دُعای بخواند در آن سال گناہِ ذمے نہ نویسند۔ و انبیاء علیہم السلام و اولیاء
متوجہ و مددگارِ او باشند۔ اگر تادمّت یک سال ہر روز یک بار بخواند ہر چیز
در خاطر او گزرد اللہ تعالیٰ ہماں کند۔ بزرگانِ فرمودہ اند ہر کہ از اہل سعادت
نہ باشد حق سبحانہ تعالیٰ این دُعای خواندن نصیبِ نہ کند۔ این دُعای شریف یک
لک خواص دینی و دنیادی دارد و نویسنده تا کجا بہ قلم آرد۔

۵۔ الحال، طریق دُعای باید۔ چوں خواهد این دُعای شروع کند در عروجِ ماہ ثابت
از روزِ چہار شنبہ روزہ دارد و ہر روز غسلِ کردہ باشد۔ در توبہ و استغفار
مشغول باشد۔ روزِ پنج شنبہ یا شبِ جمعہ این دو گانہ ہا بگزارد۔ اول دو گانہ
تجیّت الوضو، بعدہ دو گانہ محبت اللہ بعدہ دو گانہ بروحِ حضرت رسالت پنا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعدہ دو گانہ بارواحِ جمع پیغمبران علیہم الصلوٰۃ والسلام
بعدہ دو گانہ بارواحِ جمع اولادِ رسولؐ، بعدہ دو گانہ بارواحِ جمع اولیاء اللہ
بعدہ دو گانہ جمع صاحبانِ دعوت۔ بعدہ دو گانہ بروحِ حضرت غوث الاعظم
میراں محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ۔ بعدہ دو گانہ بارواحِ جمع
پیرانِ عظامِ شبِ اول یا روزِ اول ازین دو گانہ ہا فارغ شود و روزِ جمعہ
بعد نمازِ اشراق غسل کند و پس از پوشیدنِ جامہ ہا آب بر کف دست بگیرد
و ہفت مرتبہ سورۃ فاتحہ بخواند و بر آن آب بدمد و بر سر اندازد و ہمچنین سہ بار

یا ہفت بار کند، بفضل الہی حصار دعوت گردد و بعدہ یا اللہ المہیمن صد بار بخواند
 ۶۔ باید کہ ہر بار کہ شروع وظیفہ اسم یاد نمایند و یاد دعوت یکے از آل ہر دو نماید ترتیب
 غسل بجا آرد کہ حصار دعوت گردد و رجعت اسم نہ شود۔ بعدہ دو گانہ بروح
 شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ بعدہ دو گانہ بروح ہمہ اولیاء اللہ بعدہ
 دو گانہ جمیع اُستادان فوقانی بعدہ جمیع اُستادان تحتانی بعدہ دو گانہ سلامتی خضر
 علیہ السلام بعدہ دو گانہ سلامتی استاد بعدہ دو گانہ سلامتی خویش بعدہ دو گانہ
 حاجت در این در رکعت اول بعد فاتحہ سورہ یسین تا سلام قولاً مِّنْ
 رَبِّ الرَّحْمٰنِ و در رکعت دوم تا آخر سورہ بخواند۔ اگر سورہ یسین یاد نہ دانستہ
 باشد در ہر رکعت بعد فاتحہ چہل و یک بار سورہ اخلاص بخواند، بعد سلام عود و
 عنبر روشن کردہ سر بر ہنہ خام سیفی و آیتنہ برائے حاجات دینیہ و شمشیر یا کمان
 برائے حاجات دنیویہ پیش نہادہ رُو بسوئے رجال الغیب کردہ سہ بار این دُعا
 بخواند و دُعا بہ طلبد۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 السَّلَامُ عَلَیْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ۔ اَلْسَّلَامُ عَلَیْكُمْ يَا اَرْوَاحَ الْمُتَقَدِّسَةِ
 اَغِثْنِيْ بِعَوْنِهِ وَاَنْظُرْنِيْ بِنُظْرَةِ يَّارَقِبَاءِ يَّارَقِبَاءِ يَا جَبَاءَ وَا
 اَبْدَالَ وَاِذَا تَادُ وَاِذَا غَوَتْ وَاِذَا قُطِبَ اَغِثْنِيْ فِيْ هَذَا الْاَمْرِ
 سَلَّمَكَ اللهُ تَعَالٰى فِي الدُّنْيَا وَاْلْاٰخِرَةِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ
 تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَاَدَّهٖ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
 ۷۔ بعدہ دُعاتے مغنی کہ از حضرت خواجہ اویس قرنی منقول است بخواند و ہر کہ
 دُعاتے مغنی پیش از دُعاتے سیفی بخواند بسیار فائدہ افتد۔ بسا بزرگان فقط دُعاتے
 مغنی را علی البصر ورد داشتہ فائدہ ہا برداشتہ اند۔ ہر کہ این دُعا بلا ناغہ ورد خود

والاد، مرتبہ کمال باید۔ بسا بزرگان بریں دُعَا مَوَاطِئِتِ وَاثْنَتَا اَنْدِ بَعْضِ صَاحِبِانِ
اس دُعَا ہر روز سہ بار بوقت صبح و رات خود داشته اند۔

نوٹ :- یہ مجموعہ ادعیہ حضرت قبلہ میاں علی محمد شاہ صاحب مدظلہم کے روزانہ و روزگاہی مصلحت
میا جا رہا ہے۔ اس میں دُعَا سَیْفِی اور دُعَا سَیْفِی کے علاوہ دُعَا سَیْفِی اور دُعَا سَیْفِی
مظاہر بھی شامل ہیں اور اس مجموعہ ادعیہ کو اسی ترتیب سے پڑھنے میں مفصلہ بالہدایات کی تعمیل
بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ قاری کو چاہیے کہ ان ادعیہ کا روزانہ و روزگاہی شروع کرنے سے پہلے
دو رکعت نفل برائے قرأت دُعَا سَیْفِی و دو رکعت سُنتِ الدُّعَا کے اعتناء میں جمع المکرمات
مفسر الخوانجیری کے مندرجہ بالا میں دی گئی ہدایات کے مطابق پڑھے اور پھر سورہ کلمہ پڑھے۔
یہ مرتبہ پڑھے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ

اس چیز سے سوال کرتے ہیں اس بزرگ نبی سے

الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ۗ كَلَّا

وہ بیچ میں کے اختلاف کرتے ہیں بزرگوں میں

سَيَعْلَمُونَ ۗ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

کتاب جانیں گے پھر مرکزوں میں شک نہیں ہے

لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ

کیا نہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو

أَوْتَادًا ۝ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝

تینیں اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا

اور کیا ہم نے نیند تمہاری کو سبب آرام کا اور کیا ہم نے

الْبَيْتَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ

رات کو پردہ اور کیا ہم نے دن کو

مَعَاشًا ۝ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۝

وقت معاش اور تیار کئے ہم نے اوپر تمہارے سات آسمان سخت

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَنُورًا ۝ وَأَنْزَلْنَا

اور کیا ہم نے چراغ روشن اور اتارا ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نَّجَّاجًا ۝

پگھلنے والی بدلیوں سے پانی گونا سخت

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا

تاکہ نکالیں ہم ساتھ اس کے اناج اور بوٹیاں اور باغ

أَلْفَافًا ۝ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْحِ كَانَ

پلے ہوئے تحقیق دن جدائی کا بیگا

مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ

وقت مقرر جس دن پھونکا جائے گا بیچ صور کے پس آؤ گے

أَفْوَاجًا ۞ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

فوج فوج اور کھولا جائے گا آسمان پس ہو جاویں گے

أَبْوَابًا ۞ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞

دروازے اور چلائے جائیں گے پہاڑ پس ہو جائیں گے مانند ریت کے

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّاغِينَ مَابًا ۞

تحقیق دوزخ ہے گھات میں واسطے سرکشوں کے جگہ پھر جانے کی

لِبَشِيرٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا

رہیں گے بیچ اس کے قزوں بے شمار نہ چھکیں گے بیچ اس کے ٹھنڈک

وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَاءً

اور نہ پینا مگر پانی گرم اور پیپ بدلہ دیتے جائیں گے

وَفَأَقَا ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞

موافق تحقیق وہ تھے نہ امید رکھتے حساب کی اور

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصِيهِ

جھٹلاتے تھے نشانیوں ہماری کو جھٹلانے کو اور ہر چیز کو گن لیا ہم نے اس کو

كِتَابًا ۞ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ إِنَّ

لکھنے کو پس چکھو پس ہرگز نہ زیادہ کریں گے ہم تم کو مگر عذاب تحقیق

لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝

واسطے پرہیزگاروں کے مزد ہیں باغ ہیں اور انگور ہیں

وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝ وَكَأْسَادٍ هَاقًا ۝

اور نوجوان عورتیں ہیں ہم عمر اور پیالے ہیں بھرے ہوئے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۝

نہ سنیں گے یہاں اس کے بے ہودہ اور نہ جھٹلانا

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝

بدلا ہے رب تیرے کی طرف سے بخشش کا حساب سے

رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ درمیان اس کے ہے

الرَّحْمَنِ لَا يَمُرُّ بكَوْنٍ مِنْهُ خَطَابًا ۝

بخشش کرنے والا نہ اختیار پاویں گے اس سے ایک بات کرنے کا

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝

جس دن کھڑا ہوگا رُوح اور فرشتے صف باندھ کر

لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَدْنَىٰ لَهُ الرَّحْمَنُ

نہ بولیں گے مگر جس کو حکم دیوے واسطے اس کے رحمن

وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝

اور کہنے گا اچھا یہ دن ہے برحق

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۝

پس جو کوئی چاہے پھڑے طرف رب اپنے کے جگہ پھر جانے کی

إِنَّا أَنْزَرْنَاكَ عَذَابًا قَرِيبًا ۝

تحقیق ہم نے ڈرایا تم کو عذاب نزدیک سے جس دن

يُنظَرُ السَّرْعُ مَا قَدَّ مَتَّ يَدَا ۝

دیکھ لیوے گا ہر مرد جو کچھ آگے بھیجا ہے ہاتھوں اُس کے نے

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلِيَّتِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

اور کہے گا کافر اے کاش ہوتا میں مٹی

خَالِدِ سَيْفِي

تفہیم الشیخ محمد عمر من کتاب تلمیذ بجنر السید احمد ابن ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

فی الاسکندریۃ علیہ اجازتہ من حضرت السید الممدوح

۱۰۴۱۳۱	۱۰۴۱۳۲	۱۰۴۱۳۳	۱۰۴۱۳۴
۱۰۴۱۳۵	۱۰۴۱۳۶	۱۰۴۱۳۷	۱۰۴۱۳۸
۱۰۴۱۳۹	۱۰۴۱۴۰	۱۰۴۱۴۱	۱۰۴۱۴۲
۱۰۴۱۴۳	۱۰۴۱۴۴	۱۰۴۱۴۵	۱۰۴۱۴۶

۲۱۶۵۲۵

خاتو ديگر

وفق ۵۱۴۴۲۵

۲۸۶۰۶	۱۲۸۶۰۹	۱۲۸۶۱۲	۱۲۸۵۹۸
۲۸۶۱۱	۱۲۸۵۹۹	۱۲۸۶۰۵	۱۲۸۶۱۰
۲۸۶۰۰	۱۲۸۶۱۴	۱۲۸۶۰۷	۱۲۸۶۰۴
۲۸۶۰۸	۱۲۸۶۰۳	۱۲۸۶۰۱	۱۲۸۶۱۳

خاتو ديگر

جمله ۴۶۲۴۷۵

۶۴۶۱۸	۱۶۴۶۲۱	۱۶۴۶۲۵	۱۶۴۶۱۱
۶۴۶۲۴	۱۶۴۶۱۲	۱۶۴۶۱۷	۱۶۴۶۲۲
۶۴۶۱۳	۱۶۴۶۲۷	۱۶۴۶۱۹	۱۶۴۶۱۶
۶۴۶۲۰	۱۶۴۶۱۵	۱۶۴۶۱۴	۱۶۴۶۲۶

الْحِرَارِ الْبِمَانِي

(اعتصام دُعَايِ حَمِيدِي)

يَا فَتَّاحُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

می خواهم بسم خدائی بخشنایند مرمان

حَصَّصْتُ بِاللَّهِ فِقْرًا وَإِلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ

من زدم من به خدا پس بدو پدید بسوئے خدا و اعتماد می کردم من

عَلَى اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا

خدا و نیست هیچ مدد حقیقتاً مگر از جانب خدا و نیست مرا

مُؤَيِّدِي إِلَّا بِاللَّهِ ۝ حَسْبِيَ اللَّهُ ط مَا شَاءَ

مرا دادن مگر از خدا بسنده است مرا اللہ هر چه خواهد

اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝ تَخَصَّصْتُ بِيَدِي

نیست هیچ زور مگر به خدا پناه گرفتم من به خداوند

بِعِزَّتِكَ وَالْمَلَكُوتِ وَاعْتَصَمْتُ بِبِدْيِ الْعِزَّةِ

تو ای و سلطنت آفاق با و چنگ زدم من به خداوند پیرگی

وَالْجَبْرُوتِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا

و عظمت و جلال و اعتماد کردم من بر زندہ و پائندہ کہ نہ

يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ ۝ دَخَلْتُ فِي حِزْبِ اللَّهِ

بخسید و نہ میرد داخل شدم من در حفاظتِ خدا

وَفِي أَمَانِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ

و در پناہِ خدا و در حفاظتِ خدا از بدیِ ہمہ

الْبَرِيَّةِ أَجْمَعِينَ ۝ بِحَقِّ كَهَيْعَتِ

خلایقِ تمامی بہ واسطہٴ کھایعص

وَبِحَقِّ حَمَّاسِقِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

و بہ وسیلہٴ حممستق و بہ حرمتِ نیست بیج گردیدن و نیست بیج زور

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

مگر بہ خدائے بزرگ و برتر

دُعَاءُ رِجَالِ الْغَيْبِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خوانم بناام خدا بسیار بخشنا آئندہ مہربان

۱۔ رجال الغیب کی سمتیں معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل شعر اور جدول دیکھتے۔ شعر میں ہفتہ کے

دنوں کے حساب سے سمتیں دی گئی ہیں اور جدول میں مہینہ کی تاریخوں کے حساب سے

در شرق شدہ و شدہ جمع یکشد غروب شمال اور شمال و سر شدہ و جنوب باقر صف آئندہ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ وَيَا أَرْوَاحَ

سلامتی شود بر شما اے مردانِ غیب و اے رُوح ہائے

الْمُتَقَدِّسَةِ أَعْيَتْوَنِي بِغَوْثَةٍ وَالنُّظْرُوقِي

پاکیزہ بفریاد من برسید بمددے و نگہ را دید مرا

بِنُظْرَةٍ يَا رُقَبَاءُ وَيَا نِقَبَاءُ وَيَا نَجَبَاءُ وَيَا

بہ نگہد اشتنی اے محافظین و اے نکرانانِ اشرف و اے جوانِ مرزاں (یعنی برگزیدگان) و

أَبْدَالُ وَيَا أَوْلَادُ وَيَا غَوْتُ وَيَا قُطْبُ

اے ابدال و یا اولاد و اے غوث و اے قطب

أَعْيَتْوَنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ سَلِّمُوا لِي اللَّهُ تَعَالَى

بفریاد من برسید دریں امر بسلامتی وارد شمارا اللہ تعالیٰ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

دریں جہاں و آل جہاں بوسیلتہ مہترما حضرت محمد صلعم و آل وے

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

و اصحاب وے تمامی برحمتِ خودت اے مہربان ترین جملہ مہربانان

لے تاریخ وار جدول سمتِ رجالِ الغیب :-

جنوب مشرق - ۱، ۹، ۱۶، ۲۴ جنوب مغرب - ۲، ۱۰، ۱۷، ۲۵

جنوب - ۳، ۱۱، ۱۸، ۲۶ مغرب - ۴، ۱۲، ۱۹، ۲۷

شمال مغرب - ۵، ۱۳، ۲۰ شمال مشرق - ۶، ۲۱، ۲۸

مشرق - ۷، ۱۴، ۲۲، ۲۹ شمال - ۸، ۱۵، ۲۳، ۳۰

دُعَاۓ جِبْرِیْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

می خواهم بنام خدای بخشنایند مهربان

اللّٰهُمَّ بِحَقِّ سَيِّدِنَا جِبْرِائِیْلِ وَسَيِّدِنَا مِیْكَائِیْلِ

اے بارالها بوسیلهٔ مہترما جبرائیلؑ و سردار ما میکائیلؑ

وَسَيِّدِنَا اِسْرَافِیْلِ وَسَيِّدِنَا عِزْرَافِیْلِ وَ

و آفاتے ما اسرافیلؑ و سرور ما عزرائیلؑ و

بِحَقِّ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ طَعَالِمُ الْغَیْبِ

بوسیلهٔ آن کہ اللہ است آن ذات کہ نیست هیچ معبود بحق مگر ذات او ہمہ غیوب دانند است

وَالشَّهَادَةُ ط هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ط اَجِبْ

وہمہ امور حاضرہ را اوست بسیار بخشنایند مهربان قبول کن

دَعُوْنِیْ وَاقْضِ حَاجَتِیْ ۝ یَا اِلٰهِیْ مَنْ اَرَادَنَا

دُعائے مرا و روا کن حاجت مرا اے معبود من آن کس کہ ارادہ کند

بِسُوۡءٍ فَرُدَّہٗ وَّمَنْ کَادَنَا بِکِبْرِیْ فَاکْذِبْہٗ وَّمَنْ

بما بدی پس تو او را رد کن و آن کس کہ مکر کند بما بکبرے پس تو خود او را مکر کن و آن کس کہ

دَعَا عَلَیْنَا فَاھْلَکْہٗ ۝ وَاَحْفَظْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْنَا

بدو عا کند بر ما پس تو او را ہلاک کن و ما را نگہدار از پیش ما

وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا

و از پشت ما و از طرف راست ما و از طرف چپ ما

مِنْ جَمِيعِ بِلِيَّاتِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ

از تمامی مصیبت های آسمان های هفت و زمین

وَمَنْ فِيهِنَّ ۝ بِحَقِّ إِهْيَاءِ شَرَاهِيَا ذُوْنِي

و آن ها که در انیا هستند بواسطه ذات حق و قیوم آذونی

صَبَاوُتُ ۝ تَقْبَلُ دُعَائِنَا بِكُلِّ مَا دَعَوْتُ

بوسیله خالق قبول کن دعای ما را به هر آن چیز که خواستم من

بِحَقِّ أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۝ وَافْتَحْ مَغَائِبِنَا

بوسیله (فرمان خودت که) دعایند از من قبول می کنم شمارا و ظاهر کن (سخن ساز) جمیع مغیبات

بِمَفَاتِيحِ الْغَيْبِ بِحَقِّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۝

از اب کلید های غیب بوسیله آنکه نمی داند آن غیوب را مگر ذات خودش

وَ اكْتَفَتْ ضُرْرَنَا بِحَقِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا

رفع کن مضررت ما بوسیله آن که نیست هیچ رفع کننده برائے آن (یعنی آن مضررت)

هُوَ ۝ وَ بِحَقِّ التَّمَّصِ طَهَّ يَسِّنُ وَالْقَلَمِ

را او و بوسیله التَّمَّصِ طَهَّ یَسِّنُ و القلم

وَمَا يَسْطُرُونَ ۝

و ما یسطرون

دُعَاةُ اسْتِجَابَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

می خواهم بنام خدائے بخشاینده مهربان

يَا مُفْتِحَ الْاَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ

اے واکندهٔ جملہ در ہا و اے سبب پیداکنندهٔ جملہ سبب ہارا

وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ وَيَا اٰخِيَاثَ

و اے تصرف کندهٔ بر دل ہا و بینائی ہا و اے فریاد رس

الْمُسْتَعِيْثِيْنَ وَيَا دَلِيْلَ الْمُتَحِيْرِيْنَ وَ

من زیاد خواہاں و اے رہنمائے متحیراں و

يَا مُفَرِّجَ السَّخْرُوْدِيْنَ اَعْنِيْ اَعْنِيْ ۞

اے فرحاں گردانندهٔ جملہ اندوہ گیناں فریاد مرابرس فریاد مرابرس فریاد مرابرس

تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّيْ وَفَوَضْتُ اِلَيْكَ اَمْرِيْ

اعتماد کردم من بر تو اے پروردگار من و سپردم من بسوتے تو کار خود

يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ

اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار اے اللہ اے کشاینده اے بسیار رزق دهنده

يَا فَتَّاحُ يَا كَرِيْمُ ۞

اے بسیار فتح کنده اے بسیار مهربان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

می خواهم من بنام خداے بخشاینده مهربان

يَا اللّٰهُ الْمَحْمُوْدُ فِيْ كُلِّ فَعَالٍ ۝ يَا اللّٰهُ ۝

اے خداے ستوده شده در هر کار و کردار خود اے خدا

دُرُودِ خَمْسَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

می خواهم من بنام خداے بسیار بخشاینده مهربان

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍۚ بَعْدَ دِمْنٍ صَلِّ

اے الهایا درود بفرست بر سرور ما محمد بشمار آں با که درود فرستند

عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍۚ بَعْدَ دِمْنٍ

بر اے و درود بفرست بر سرور ما محمد بشمار آں با که

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍۚ

درود نه فرستند بر اے و درود بفرست بر سرور ما محمد

كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ

چنان که تو پسندی و راضی شوی که درود فرستاده شود بر اے و درود بفرست

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍۚ كَمَا يُبَغِي الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ ۝

بر سرور ما محمد چنان که سزاوار است درود فرستادن بر اے

دھروا صبحی (شرح جمع المعانی) دریا حیات
نفعی (جمع المعانی) دریا حیات

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا

و درود بفرست بر سرور ما محمد چنان که حکم کردی تو ما را برائے

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ○

درود فرستن بر دے

دُعَاةٌ جِدْرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

می خوانم بنام خدائے بسیار بخشاینده مهربان

بِسْمِ اللَّهِ الْجَبَلِ الْجَبَّارِ الْقَاهِرِ الْقَهَّارِ ○

می خوانم بنام خدائے بزرگ شکننده کاها پھیر غلبه کننده

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاهِرِينَ

بارِ اَللّٰهُمَّ رحمت بفرست بر مہتر ما محمد که سردارِ جمیع پھیرگان است

عَلَى أَعْدَاءِ عَرَبِ الْعَالَمِينَ ○ يَا حَيْدَرُ يَا حَيْدَرُ

بر دشمنان پروردگارِ آفاق و جہان ہا اے حیدر اے حیدر

يَا حَيْدَرُ يَا أَبَا تَرَابٍ يَا عَلِيُّ يَا أَسَدَ اللَّهِ يَا وَلِيَّ

اے حیدر اے ابو تراب اے علی اے شیر خدا اے ولی

اللَّهِ يَا رِجَالَ اللَّهِ يَا مَقْبُولَ اللَّهِ يَا مَحْبُوبَ اللَّهِ

خدا اے مردانِ خدا اے قبول کرده شدہ خداوند اے محبوبِ خدا

يَا ظَهْرَ اللَّهِ يَا مظهرَ الْعَجَائِبِ بِالْفُتُورِ ۝ اِنِّي مُغْلُوبٌ

اے ظہورِ الہی اے جائے ظہورِ عجائبات بہ چیرگی بدستیکہ من غلبہ کردہ شدہ ام

فَانْتَصِرْ اِنِّي مُغْلُوبٌ فَاَنْتَصِرْ اِنِّي مُغْلُوبٌ فَاَنْتَصِرْ

پس یاری کن مرا بدستیکہ من غلبہ کردہ شدہ ام پس یاری کن مرا

يَا حَقُّ يَا حَقُّ يَا حَقُّ تَحَقَّقْتَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ

اے حق اے حق اے حق تو ثابت بحق ہستی و جمیع حق

فِي حَقِّ حَقِّكَ يَا حَقُّ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ

قائم است در حق شدن حق نشست اے حق اے فتاح اے فتاح اے فتاح

يَا قَادِرُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اللَّهُ ۝ اللَّهُ اَكْبَرُ

اے قادر اے حی اے قیوم اے اللہ اللہ بزرگ ترین است

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

و نیست هیچ گردیدن و نیست هیچ زور مگر بہ مددِ خدائے برتر بزرگ

يَا عَظِيمُ تَعَظَّمْتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةُ فِي

اے بزرگ و عظیم کہ معظم و بزرگوار ہستی بہ جمیع بزرگی ہا و جمیع بزرگی است در

عَظَمَةِ عَظَمَتِكَ يَا عَظِيمُ ۝ يَا رَبُّ يَا قَدِيرُ

بزرگ گئے بزرگ گئے تو اے صاحبِ عظمت اے پُرزندہ جمیع خلایق اے

يَا خَالِقُ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ ۝ يَا مُسَخِّرَ السَّمَوَاتِ

صاحبِ قدرت اے آفرینندہ اے مہربان اے بسیار مہربان اے مطیع کنندہ آسمان ہا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَا عَلِيمٌ ۝ يَا مُحْيِي

و زمین و ہرچہ سہست در میان این ہر دو لائے انائے اے زندگی دہندہ اے

مُيْتٍ يَا مُتَكَبِّرٌ يَا ضَارُّ ۝ يَا جَلِيلُ الْمُتَكَبِّرِ

موت دہندہ اے تکبرکنندہ اے ضرور رسانندہ اے بزرگ بزرگی نمائندہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرَةٌ وَالصِّدْقُ وَعْدَةٌ

بر ہر چیزے پس محض عدل است حکم او و خالص صدق است وعدہ او

يَا جَلِيلُ ۝ حَسُودِي مَقْهُورٌ وَعَدْوِي مَقْتُولٌ

اے بزرگ حاسد من زیر غلبہ افتادہ است و دشمن من قتل کردہ شدہ است

بِقَهْرِكَ يَا قَهَّارٌ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ

بہ طفیل غلبہ تو اے بسیار غلبہ کنندہ غلبہ کردی تو بہ غلبہ خالص و غلبہ خالص است

فِي قَهْرِ قَهْرِكَ يَا قَهَّارٌ قَهْرًا عَدَائِي يَا جَبَّارُ ۝

در غالب شدن غلبہ تو اے بسیار غلبہ کنندہ غلبہ کن بر دشمنان من اے شکنندہ کام ہا

يَا مُدِيلُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِدًا بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ

اے ذلیل کنندہ ہر گردن کش ستیزندہ بہ سبب غلبہ چیرہ تو انائی خود

يَا مُدِيلُ ۝ يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ

اے خوار کنندہ اے پاک و خالص از ہر ستمی کہ نہ پسندید آل را

اے علیم آل ذات است کہ حصلت له حقیقۃ العلم (المنجد) آل کہ علمش محیط

بجمع اشیا باشد (منتہی الارباب)

اے حسود و جمعہ حسود (المنجد)

لَمْ يَخَالِطْهُ فِعَالُهُ يَا ذَقِيًّا ۝ قَتَلْتُ بِسَيْفِ

نہ آمیخت آں را کار ہا و کردار ہائے او آے پاکِ خاص قتل کردم من بذریعہ شمشیر

اللَّهِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

خدا برائے شکر اُلفت دادن قریش یعنی اُلفت دادن ایشان بہ سفر زمستان

وَالصَّيْفِ ۝ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

و تابستان و نہ انداختی تیر و قتیکہ تیر اندازی کردی بلکہ خدا خود تیر اندازی

رَمَى ۝ يَا قَوِيُّ يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ

کرد اے طاقت ور اے چیرہ خداوند گرفتگی و حملہ سخت

أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ ۝ يَا قَاهِرُ

توئی آں کہ نہ تاب آورده شود کینہ کشیدن اُورا اے چیرہ

إِقْهَرُ وَادْفَعْ أَعْدَاءِي مِنْ قَهْرِكَ أَنْتَ

غلبہ کن و دفع کن دشمنان مرا از غلبہ دشمنان کنے خودت ہستی تو

أَشَدُّ الْقَاهِرِينَ ۝ حَقِّ حَقِّ حَقِّ ۝

سخت ترین غلبہ کنندگان

درودِ خمسہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ

بارِ الہا درود بفرست بر ہستہ ما محمدؐ بہ شمار آنماں کہ

اے بوقتِ خاص "قتلتہ" پڑھیے اور مخصوص دشمن کا تصور کیجئے۔

صَلَّى عَلَيْهِ ۝ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

دُرُودِ فَرَسْتَنْدِ بَرُوے و دُرُودِ فَرَسْتِ بَرِ مَهْتَرِ مَا مُحَمَّدٌ بِه شَمَارِ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

آمَانِ كِه نَه فَرَسْتَنْدِ دُرُودِ بَرِ وے و دُرُودِ فَرَسْتِ بَرِ مَهْتَرِ

مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

مُحَمَّدِ چِخَاں كِه بِپَسَنْدِی تُو و رَاضِی شَوِی تُو كِه دُرُودِ خَوَابِدِ فَرَسْتِ بَرِ وے

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَتَّبِعِي الصَّلَاةَ

و دُرُودِ بَفَرَسْتِ بَرِ سَرُورِ مَا مُحَمَّدٌ چِخَاں كِه شَائِدِ فَرَسْتِ دُرُودِ

عَلَيْهِ ۝ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

بَرِ وے و دُرُودِ بَفَرَسْتِ بَرِ سَرُورِ مَا مُحَمَّدٌ چِخَاں كِه مَارِ

أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ۝

حَكْمِ كَرْدِی تُو بَرِائے فَرَسْتِ دُرُودِ بَرِ وے

يَا حَمِيدَ الْفَعَالِ ذَا الْمِنِّ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ

آے سَتُودِه كَرْدَارِ خَدَاوندِ نَعْمَتِ دَاوَنِ بَرِ تَمَامِی آفَرِيشِ خُودِ

بِلُطْفِهِ يَا حَمِيدَ ۝ يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كَرْبٍ

بِهَرِ بَانِی خُودِ آے سَتُودِه آے فَرِیَا دَرِسِ مَن نَزْدِ بَرِ اَنْدُوسِ

وَمَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَجُوبِي عِنْدَ كُلِّ

وِپَنَاهِ گَاهِ مَن نَزْدِ بَرِ سَخْتِ وِ پَاسِخِ دِهَنْدَهٗ مَن نَزْدِ بَرِ

دَعْوَةٌ وَمَوْئِسِيٌّ عِنْدَ كُلِّ وَحْشَةٍ وَيَا رَجَائِي

خواندگی و مواسبت کنندہ من نزد ہر وحشت و اے امید گاہ من

حِينَ تَنْقَطِعُ حَيْلَتِي ۝ يَا غِيَاثِي ۝ نَادِ عَلِيًّا

قتے کہ بریدہ گردد چارہ من اے فریاد رس من بخوان علیؑ را

مُظْهِرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ

مقام ظہور چیز ہائے شگفت است خواہی یافت اور ایار و پستی بان برائے خودت در ہمہ مشکل ہائے

كُلُّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَيَنْجِلِي بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا

ہمت بہ نوبت آئندہ ہر اندوہ و غم زود دور شود بہ تائید یاری تو اے علیؑ اے

عَلِيُّ يَا عَلِيُّ ۝ لَأَفْتِيَنَّ الْأَعْلَى الْأَسْفَلَ وَالْفَقَارِ ۝

علیؑ اے علیؑ نیست ہیچ مرد حق (مثل علیؑ) بجز علیؑ ہیچ شمشیر نیست مگر ذو الفقار علیؑ

چہل اسمائے عظام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خوانم بنام خدائے بخشنایندہ مہربان

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ

پاکی یاد می کنم بہ پاکی یاد کردن ترا نیست ہیچ معبود بحق مگر تو اے مالک پروردگار ہر چیزے

ہ ناو علیؑ سے یا علیؑ تمہک سات مرتبہ پڑھیے اور لافتنی سے ذو الفقار تمہ

تین مرتبہ پڑھیے۔



وَوَارِثَهُ وَرَازِقَهُ وَرَاحِمَهُ ۝ سُبْحَانَكَ ۝

و میراث برنده آن در روزی دهنده آن و مهربانی کننده آن به پاکی یاد می کنم به پاکی یاد کردن ترا

يَا إِلَهَ الْإِلَهَةِ الرَّفِيعِ جَلَالَهُ ۝ يَا إِلَهَ ۝ يَا

اے پرستیده شده پرستیده شدگان که بتر است بزرگتے او اے پرستیده شده اے

اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فَعَالِهِ ۝ يَا اللَّهُ ۝ يَا

خدائے ستوده شده در هر کار و کردار خود اے خدا اے

رَحْمَنٍ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمَهُ وَرَازِقَهُ ۝ يَا

بخشاینده هر چیزے و مهربانی کننده آن و رزق دهنده آن اے

رَحْمَنٍ ۝ يَا حَيُّ حَيُّنَ لَا حَيَّ فِي دِيَوْمَةٍ

بخشاینده اے زنده وقتی که نه مانند هیچ زنده حالیکه باشند است در همیشه

مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ ۝ يَا حَيُّ ۝ يَا قِيَوْمَ فَلَا يَفُوتُ

بادشاهی خودش و پائیدن خودش اے زنده اے پائیده پس نه فوت شود

شَيْءٌ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُوَدُّ لِحِفْظِهِ ۝ يَا قِيَوْمَ

چیزے از دانائی او و نه به رنج آورد او را حفاظت آن اے پائنده

يَا وَاحِدُ الْبَاقِي أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرُهُ ۝ يَا وَاحِدُ

اے یکتائے پائیدار نخستین هر چیزے و پسین آن اے یکتا

اے یعنی بسیار رحمت کننده به رحمت امتنانیه که بلا معاوضه اعمال است -
اے توضیح این اسم این است که اے واحدے که باقی است بذات و صفات خود به نسبت
اول هر چیزے و به نسبت آخر هر چیزے -

يَا اِيْحَمْرُ لَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالَ لِمُلْكِهِ ۝ يَا اِدَا اِيْحَمْرُ يَا

اے ہمیشہ باشندہ بغیر سپری شدن و بغیر زائل شدن مرپادشاہی اور اے ہمیشہ باشندہ اے

حَمَدٌ مِنْ غَيْرِ شَبِّهِ وَلَا شَيْءٌ كَمِثْلِهِ ۝ يَا صَمَدٌ ۝

بے نیاز از سوائے مانند و نیست چیزے ہمتائے او اے بے نیاز

يَا بَارِئُ فَلَاشَيْءٌ كَفَوْهُ لَا يُدَانِيهِ وَلَا اِمْكَانٌ لَوْصِفِهِ ۝

نئے نیکوکار پس نیست چیزے ہمتائے او کہ نزدیکی کند او را و نیست دست دادن مر بیان اورا

يَا بَارِئُ ۝ يَا كَبِيرُ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِي لَا تَهْتَدِي

اے نیکوکار اے بزرگ توئی خدا آن کہ نہ راہ یابد

الْعُقُولُ لَوْصِفِ عَظَمَتِهِ ۝ يَا كَبِيرُ ۝ يَا

عزما و دانش ہا مر بیان بزرگتے او را اے بزرگ اے

بَارِئُ النَّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَامِنْ غَيْرِهِ ۝

آفریدگار جان ہا بغیر کابلد حایکہ خالی است از غیر خود

يَا بَارِئُ ۝ يَا زَاكِي الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ اَفْسَةٍ

اے آفریدگار اے پاک پاکیزہ از ہر آسبے

بِقُدْسِهِ ۝ يَا زَاكِي ۝ يَا كَافِي الْمَوْسِعِ لِمَا خُلِقَ

بہ سبب پاکتے نمود اے پاک اے بسندہ فراخ گردانندہ مر ہر چیزے کہ پیداشد است

ن . اے ہمیشہ بوندہ

سہ یعنی بیان و صف اورا

مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ ۝ يَا كَافِي ۝ يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ

بخشش ہائے بخشش افزون خود اے بسندہ اے پاک و خالص از ہر

جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ ۝ وَلَمْ يَجَالِطْهُ فِعَالُهُ ۝ يَا ثَقِيلَ

ستے کہ نہ پسندید آں راوند آمیخت آں را کار و کردار ہائے او اے پاک و خالص

يَا حَنَّانُ ۝ أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً

اے بسیار بخشاوندہ تویی آں کہ فراخ کردی ہر چیزے را از روتے مہربانی

وَعِلْمًا ۝ يَا حَنَّانُ ۝ يَا مَنَّانُ ۝ ذَا الْإِحْسَانِ ۝ قَدْ

داناتی اے بسیار بخشاوندہ اے بسیار بخش کنندہ خداوند نیکی و تحقیق

عَمَّ كُلِّ الْخَلَائِقِ مِنْهُ ۝ يَا مَنَّانُ ۝ يَا دَيَّانَ

راگرفت ہمہ آفرینش ہا را نعمت دادن او اے بسیار بخش کنندہ اے پاداش دہندہ

لِعِبَادِكُمْ كُلِّ يَوْمٍ خَاضِعًا لِرَهْبَتِهِ وَرَغْبَتِهِ ۝

سندگان ہمہ کس استادہ می شود فروتنی کنندہ بہ بہت ترس او و بہ بہت میل او

يَا دَيَّانَ ۝ يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ

اے پاداش دہندہ اے آفرینندہ ہر کہ در آسمان ہا و ہر کہ

فِي الْأَرْضِ وَكُلِّ إِلَيْهِ مَعَادَةٌ ۝ يَا خَالِقَ

در زمین است و ہمہ چیز بسوئے اوست بازگشت آں چیز اے آفرینندہ

يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيحٍ وَمَكْرُوبٍ وَغِيَاثَهُ ۝

اے مہربان ہر فریاد کنندہ و ہر اندوہ گیس و فریاد رس او و

مَعَاذَهُ ۝ يَا رَحِيمٌ ۝ يَا تَأَمَّرُ فَلَا تَصِفُ إِلَّا كَسُنُّ

پناہ گاہ او اے مہربان اے تمام شونہ پس نہ بیان کند زبان ہا

كُنْهُ جَلَالِهِ وَمُلْكِهِ ۝ يَا تَأَمَّرُ ۝ يَا مُبْدِعُ

حقیقت بزر گئے اور او تمام پادشاہی اور اے تمام شونہ اے نو پیدا کنندہ

الْبَدَائِعِ لَمْ تَبْعِ فِي انْشَاءِهَا عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ ۝

چیز ہائے نو پیدا کردہ نہ جستی تو در نو پیدا کردن آنها مددے از آفرینش خود

يَا مُبْدِعُ ۝ يَا عَلَّمَ الْغُيُوبِ فَلَا كِفُوتُ شَيْءٍ

اے نو پیدا کنندہ اے بسیار دانندہ چیز ہائے نہاں پس نہ فوت شود چیزے

مَنْ عَلَيْهِ وَلَا يُودُّهُ حِفْظُهُ ۝ يَا عَلَّمَ

از علم او نہ بوج آورد اور انکھداشت آل چیز اے بسیار دانندہ

يَا حَلِيمٌ ذَا الْاِنَاةِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِنْ

اے بردبار خداوند آہستگي و بردباری پس نہ برابر آید او را چیزے از

خَلْقِهِ ۝ يَا حَلِيمٌ ۝ يَا مُعِيدٌ مَا اَفْنَاهُ اِذَا

آفرینش او اے بردبار اے باز گردانندہ چیزے کہ نیست گردانید آل

بَرَزَ الْخُلَاقِ لِدَعْوَتِهِ مِنْ تَخَافَتِهِ ۝ يَا

وقتے کہ آشکارا شود آفرینش ہا بھمت خواندن او از ترس او اے

مُعِيدٌ ۝ يَا حَمِيدٌ الْفَعَالِ ذَا الْمُنِّ عَلَىٰ جَمِيعِ

باز گردانندہ اے ستودہ کردار خداوند نعمت دادن و منت نہادن بر تمامی

م
ع
ن

خَلَقَهُ بِلُطْفِهِ ۝ يَا حَمِيدٌ ۝ يَا عَزِيزُ الْمُنِيعُ

آفرینش خود بہ مہربانی خود اے ستودہ اے توانائے ارجمند

الْغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُہُ ۝ يَا عَزِيزُ

بہیرہ بر فرمان خود پس نیست چیزے کہ برابر آید اُورا اے توانا

يَا قَاهِرُ ذَا الْبُطْحِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي لَا

اے بہیرہ خداوند گرفتگی و حملہ سخت تویی آن کہ نہ

يُطَاقُ انْتِقَامُہُ ۝ يَا قَاهِرُ ۝ يَا قَرِيبُ الْمُتَعَالَى

تاب آوردہ شود کینہ کشیدن اُورا اے بہیرہ اے نزدیک بسیار برتر

فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا رُتِفَاعِہُ ۝ يَا قَرِيبُ ۝

بالائے ہر چیزے است برتری بلندی اُو اے نزدیک

يَا مُدِيلُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِہُ ۝

اے خوار و نرم کنندہ ہر گردن کش ستیزندہ بہ سبب غلبہ بہیرہ توانائی خود

يَا مُدِيلُ ۝ يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَاہُ أَنْتَ الَّذِي

اے خوار کنندہ اے روشنی ہر چیزے در راہ است یافتن آن تویی آن کہ

فَلَقَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِہُ ۝ يَا نُورَ ۝ يَا عَالِي السَّمَاوَاتِ

شکافت تاریکی ہارا بہ روشنی خود اے روشنی اے برتر بلند

فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا رُتِفَاعِہُ ۝ يَا عَالِي ۝

بالائے ہر چیزے است برتری بلندی اُو اے برتر

يَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوِّءٍ فَلَا شَيْءَ

اے بسیار پاک پاکیزہ از ہر بدی پس نیست چیزے کہ

يُعَاذُهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ ۝ يَا قُدُّوسُ

تو لب شود اورا حالیکہ شونده است آن چیز از تمامی آفرینش او غلبہ کہ شونده است بہر بائی او اے

يَا مُبْدِيَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَ هَابَعَدَ فَنَائِهَا

بسیار پاک اے آفرینندہ آفرینش با و بازگردانندہ آنها پس سپری شدن آن با

بِقُدْرَتِهِ ۝ يَا مُبْدِيَ ۝ يَا جَلِيلَ الْمَتَكِبِرِ

توانائے خود اے آفرینندہ اے بزرگ بزرگی نمایندہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرَةٌ وَالصِّدْقُ وَعْدَةٌ ۝

ہر چیز پس عین انصاف است فرمان او و عین راستی است وعدہ او

يَا جَلِيلَ ۝ يَا حَمُودًا فَلَا تَبْلُغُ الْاَوْهَامَ كُلَّ

اے بزرگ اے ستودہ شدہ پس نمی رسید گمان با تمامی

كُنْهِ تَنَائِيهِ وَحَجْدِهِ ۝ يَا حَمُودًا ۝ يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ

گوہر و پایان ستائش اورا و تمامی بزرگ گئے اورا اے ستودہ شدہ اے بخشندہ درگذشتن

ذَالْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِي صَارَ كُلُّ شَيْءٍ عَدْلُهُ ۝

مداوند انصاف تویی آن کہ ہر کردہ است ہر چیز را انصاف او

یہ مروی است کہ جبرئیل شنید کہ ابراہیم خلیل اللہ مناجات کرد در حضرت عزت و می گفت یا کریم العفو پس جبرئیل گفت

یا ابراہیم تومی دانی کہ معنی کریم العفو چیست گفت فی دالم جبرئیل گفت کریم العفو آن کہ گناہاں را عفو کند

و بدل کند گناہاں را بہ نیکی با ۱۲۰- از شرح جہل اسماء صنفہ مولانا محمد امجد سہٹی متوفی ۲۶۲ھ مفسر الخیا

يَا كَرِيمَ ۝ يَا عَظِيمَ ۝ ذَا الشَّانِءِ الْفَاحِشِ وَذَا الْعِزِّ

اے بخشنده اے بزرگ خداوند ستائش گراں مایه و خداوند ارجمند

وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَاءِ ۝ فَلَا يَذِلُّ عِزَّهُ ۝ يَا عَظِيمَ

و بزرگی و عظمت پس نہ خوار شود ارجمندی او اے بزرگ

يَا عَجِيبَ الصَّنَائِعِ ۝ فَلَا تَنْطِقُ الْأَكْسُنُ بِكُلِّ

اے شگفت نیکوئی ها پس نہ گویا شود زبان ها بہر تمامی

الآيَةِ ۝ وَنِعْمَاءِهِ ۝ وَشَنَائِهِ ۝ يَا عَجِيبَ ۝ يَا قَرِيبَ

نعمت ہائے او و انعام ہائے او و ستائش او اے شگفت اے نزدیک

الْمُجِيبِ ۝ الْمُدَانِي ۝ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ قُرْبَهُ ۝

پاسخ دہندہ بسیار نزدیک نزدیک ہر چیز سے است نزدیک او

يَا قَرِيبَ ۝ يَا غِيَاثِي ۝ عِنْدَ كُلِّ كَرْبَةٍ ۝

اے نزدیک اے فریاد رس من نزد ہر اندوہے و

مَعَاذِي ۝ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ ۝ وَجُيُبِي ۝ عِنْدَ كُلِّ

پناہ گاہ من نزد ہر سختی و پاسخ دہندہ من نزد ہر

دَعْوَةٍ ۝ وَمُؤْنِسِي ۝ عِنْدَ كُلِّ وَحْشَةٍ ۝ وَيَا رَجَائِي ۝

خواندگی و اُلفت کنندہ من نزد ہر بیگانگی و تنہائی و خوف و اے امید گاہ من

حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي ۝ يَا غِيَاثِي ۝

وقتے کہ بُریدہ گردد چارہ من اے فریاد رس من

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دُعَاةُ اِخْتِمَامِ چہلِ اَسْمَاءِ

سُئِدَكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْأَعَاطِمِ

من سوال می کنم تو را خدایا بحضرت این نام ہائے بزرگ

وَنُتَصَّلِي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہیں کہ درود فرستی تو بر سرور ما محمد و بر آل مہتر ما

مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي إِيْمَانًا وَأَمَانًا وَعَافِيَةً

محمد و اینکه روزی کنی تو مرا گرویدن تو و زہار و پناہ و رہائش و نجات

مِّنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَأَنْ تَحْبِسَ

دفع شدگی آفات و امراض از عذاب ہائے این جہان و آن جہان و این کہ باز داری

عَنِّي أَبْصَارَ الظُّلْمَةِ وَالْمُرِيدِينَ بِي السُّوءِ ۝

از من دیدہ ہائے ستم کاراں و ارادہ کنندگان بمن بدی را

وَأَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنِ شَرِّ مَا يُضْمِرُونَ

اینکہ بگردانی دل ہائے آنها را از بدی چیزے کہ در دل دارند آنها

إِلَى خَيْرٍ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ ۝ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ

من را بسوائے بہتری و نیکی کہ نہ مالک شود آن را کسے سوائے تو خدایا ہمیں دعا است

مِنِّي وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ مِنِّي

از من و از توست قبولیت و ہمیں رنج و کوشش است از من

وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ ۝ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

و بر توست اعتماد و توکل و نیست هیچ گردیدن و نیست هیچ زور مگر

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

بمقد خدائے برتر و بزرگ و درود فرستد اللہ بزرگ

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

بر بہترین آفرینش خودش مہتر ماکہ نام پاک وے محمد است بر آل وے و بر باران وے

أَجْمَعِينَ ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

تمامی مہربانی خودت اے مہربان ترین مہربانان

دَرُودِ هَرَّارَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بنام خدائے بخشنائندہ مہربان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

خدایا درود بفرست بر مہتر ما محمد و بر آل مہتر ما محمد بہ شمار

كُلِّ ذَرَّةٍ مِائَةِ أَلْفِ مَرَّةٍ - يَا رَبِّ (۵ مرتبہ پڑھیے)

ہر ذرہ صد ہزار ہزار مرتبہ اے پروردگار

يَا حَبِيبُ (۳۱ مرتبہ پڑھیے) اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ رَبِّي مِنْ

اے قبول کنندہ پناہ می خواہم بہ خدا پروردگار من از

لے یہ درود شریف دس مرتبہ پڑھیے ۱۵ تین مرتبہ پڑھیے

كُل ذَنْبٍ وَالتَّوْبُ إِلَيْهِ (اسے تین مرتبہ پڑھیے)

ہر گناہ سے و باز می گردد من بسوئے او

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بناؤم خدائے بخشنائندہ مہربان

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ہر ستائش مر خدارا است پروردگارِ عالم ہا بخشنائندہ مہربان

مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

خداوندِ روزِ جزا مر تزامی پرستیم و از تو

نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

مدد می طلبیم بنما مارا راہِ راست

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ

راہِ آناں کہ انعام کردہ تو بر ایشان بجز آناں کہ

الْمَغضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اٰمِیْنُ ۝

خشم گرفته شد بر آں ہا و بجز گمراہاں آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بناؤم خدائے بخشنائندہ مہربان

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

خداوندِ روزِ جزا مر تزامی پرستیم و از تو

نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

برہیزگاروں را آنان کہ ایمان می آرند بہ نادیدہ و برپا می دارند

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ

نماز را و از آنچه ایشان را روزی داده ایم خرچ می کنند و آنان کہ

يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ

ایمان می آرند آنچه فرود آورده شد بسوئے تو و آنچه فرود آورده شد پیش

قُدْرَتِكَ ۝ وَالْبِأُخْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

از تو و بہ آخرت ایشان یقین دارند ایشان اند

عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

برہدایت از جانب پروردگار خویش و ایشان اند

الْمُفْلِحُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

مستگاران خدا بیچ معبود نیست بجز دے زندہ تدبیرکنندہ عالم

لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

نی گیرد اُورا بیچ بینگی و نہ خواب اُوراست آنچه در آسمان ہا است

وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَٰلِ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

و آنچه در زمین است کیست آن کہ شفاعت کند نزدیک اُو

إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝

اِلا بحکم اُو می داند آنچه پیش دست ایشان است و پس پشت ایشان است

وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ

و در نمی گیرند مردمان از معلومات حق چیزے را مگر آنچه وے خواسته است

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ

ذکر گرفته است بادشاهی او آسمان ها و زمین را و گراں نمی شود بر وے

حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِكْرَاهَ

تہبانی این هر دو و او بلند مرتبه بزرگ قدر است نیست جبر کردن

فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ

برائے دین ہر آئینہ ظاہر شدہ است راه یابی از گمراہی پس ہر کہ

يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

مُنكَرِبَتٍ شُود و ایمان آرد بہ خدا پس ہر آئینہ چنگ زدہ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

است بدست آویزئی محکم کہ نیست گسستن آن را و خدا شنوا و

عَلِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُم مِّنَ

دانا است خدا کارساز مومنان است بیرون می آرد ایشان را از

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ

تاریکی ہا بسوئے روشنی و آنها کہ کافرانہ کارسازان ایشان

الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ

ہتمان اند بیرون می آرد ایشان را از روشنی بسوئے تاریکی ہا

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ایں جماعت باشندگان دوزخ اند ایشان در آن جا جاوید اند

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ

گو بار خدایا آے خداوند پادشاہی می دہی پادشاہی ہر کرا خواہی

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَ

و باز می گیری پادشاہی از ہر کہ خواہی و ارجمندی سازی ہر کرا خواہی و

تُذَلِّلُ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ

نحواری سازی ہر کرا خواہی بدست توست نیکی ہر آئینہ تو بر ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ

توانا . ہستی در می آری شب را در روز و در می آری

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ

روز را در شب و بیرون می آری زندہ را از مرده

وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ

و بیرون می آری مرده را از زندہ و روزی می دہی ہر کرا خواہی

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بے شمار

دُعَاءُ مُعْتَبَرٍ مِنْ قُرْبَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

می خواهم بنام خدای بخشاینده مهربان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

خدایا درود بفرست بر سرور ما محمد و بر آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○ وَبِكَ

سرور ما محمد علیه السلام و به افزائی و سلام بفرست و به تو

سُتَغِيثُ فَأَعِثْنِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَأَكْفِنِي

فریاد می خواهم من پس فریاد رس مرا و بر تو توکل و اعتماد کردم پس کفایت کن

بِأَكْفَانِي الْكُفْيَاتِ مِنَ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ○

اے کفایت کننده کفایت کن مرا در کارهای سخت و دشوار از جنس کار دنیا و آخرت

وَيَارْحَمَنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَيَارْحِمَهُمَا ○

اے بخشاینده این جهان و آل جهان و اے مهربان هر دو جهان

أَنَا عَبْدُكَ بِبَابِكَ فَقِيرُكَ بِبَابِكَ سَائِلُكَ

من بنده تو بر درتو محتاج تو بر درتو سوال کننده تو

بِبَابِكَ ذَلِيلُكَ بِبَابِكَ أَسِيرُكَ بِبَابِكَ ضَعِيفُكَ

درتو خوار و ذمنا بر درتو بنده تو (یعنی قیدی) بر درتو سست و کمزور تو

يَا بَابِكَ مَسْكِينِكَ يَا بَابِكَ ضَيْفِكَ يَا بَابِكَ

بر در تو تھی دست تو بر در تو مہمان تو بر در تو

يَا رَبَّ الْعُلَمِيْنَ ۝ الطَّالِحُ يَا بَابِكَ يَا غِيَاثَ

اے پروردگار جمع عوالم بدکار و تباہ حال بر در توست اے فریاد رس

الْمُسْتَغِيثِيْنَ ۝ مَهْمَوْمُكَ يَا كَاشِفَ

فریاد خواہاں اندوہ ناک تو بر در توست اے دور کنندہ

كُرْبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ ۝ عَاصِيْكَ يَا طَالِبَ

اندوہ ہائے اندوہ ناکاں گناہ گار تو بر در تو اے جو بندہ

الْبَارِيْنَ ۝ الْمُقَرَّبِيْكَ يَا رَحْمَةَ الرَّاحِمِيْنَ

نیکو کاراں اقرار کنندہ بہ گناہ بر در توست اے مہربان ترین مہرباناں

الْخَاطِيْءِ يَا بَابِكَ يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِيْنَ ۝ الْمَعْدُوْبِ

ناراست کار بر در توست اے آمرزندہ گنہگاراں اقرار کنندہ بہ گناہ

يَا بَابِكَ يَا رَبَّ الْعُلَمِيْنَ ۝ الطَّالِمُ يَا بَابِكَ يَا

بر در توست اے پروردگار عالمیان ستم گار بر در توست اے

مَا مَلَّ الطَّالِبِيْنَ ۝ الْمُسِيْءُ يَا بَابِكَ يَا بَائِسَ

اُمید گاہ جو بندگان بدکار و بدکردار بر در توست ترس ناک

يَا بَابِكَ الْخَاشِعُ يَا بَابِكَ اِرْحَمْنِيْ يَا مَوْلَايَ

بر در توست فروتنی کنندہ بر در توست رحم کنی مرا اے خداوند من

أَنْتَ الْغَافِرُ وَأَنَا الْمُسِيءُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسِيءُ

توئی آمرزگار و منم بدکار و بدکردار و آیا بیچ کس رحم می کند بدکار و بدکردار را

لَا الْغَافِرُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا

مگر آمرزگار اے خداوند من اے خداوند من توئی پروردگار و خداوند و منم

الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الرَّبُّ مَوْلَايَ

بنده و آیا بیچ کس رحم می کند بنده را مگر خداوند اے خداوند من

مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَلِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ

اے خداوند من توئی خداوند و منم تحت ملکیت آورده شده و آیا بیچ کس

يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَلِكُ مَوْلَايَ

رحم می کند در تحت ملکیت آورده شده را مگر خداوند اے خداوند من

أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ

توئی ارجمند و منم خوار و آیا بیچ کس رحم می کند خوار را

لَا الْعَزِيزُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا

مگر ارجمند اے خداوند من اے خداوند من توئی استوار و زور آور و منم

الضَّعِيفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ

سست و کمزور و آیا بیچ کس رحم می کند سست و کمزور را مگر زور آور و استوار

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْكَرِيمُ وَأَنَا اللَّدِيمُ وَهَلْ

اے خداوند من اے خداوند من توئی بخشنده و جوان مرد و منم ناکس و آیا بیچ کس

يَرْحَمُ اللَّيْمَ إِلَّا الْكَرِيمُ ۝ مَوْلَايَ مَوْلَايَ

رحم می کند ناکس را مگر بخشنده اے خداوند من اے خداوند من

أَنْتَ الرَّزَّاقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ

توئی روزی دهنده و منم روزی داده شده و آیا بیچ کس رحم می کند

الْمَرْزُوقُ إِلَّا الرَّزَّاقُ ۝ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ

روزی داده شده را مگر روزی دهنده اے خداوند من اے خداوند من توئی

الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا

ارجمند و گرامی و منم خوار و توئی آمرزگار و منم

الْمُدْنِبُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ ۝

گنهگار و توئی زور آور و استوار و منم سست و کمزور

إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي ظُلْمَةِ الْقُبُورِ ۝

اے خدای من پناه می خواهم پناه می خواهم در تاریکی گور ها

ضَيْقِمَا ۝ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ عِنْدَ سُؤْلِ

تنگی و بد حالی آنها اے خدای من پناه می خواهم پناه می خواهم نزدیک پریشانی

مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَهَيْبَتِهِمَا ۝ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ

هر دو فرشته گور (منکر و نکیر) و ترس آنها اے خدای من پناه می خواهم پناه می خواهم

عِنْدَ وَحْشَةِ الْقُبُورِ وَضَغُطِهَا ۝ إِلَهِي الْأَمَانَ

نزدیک پرتمانی و تنهایی قبر ها و افشردن و تنگ کردن آنها اے خدای من پناه می خواهم

الْأَمَانِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفًا

پناہ می خواہم در روزے کہ باشد اندازہ آن روز پنجاہ ہزار

سَنَةٍ ۝ إِلَهِي الْأَمَانِ الْأَمَانِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي

سال آے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم روزے کہ دمیدہ شود در

الصُّورِ فَصَبَعٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي

صُورِ اسرافیل پس ببرد ہر کسے کہ در آسمان ہا است و ہر کسے کہ در

الْأَرْضِ الْأَمْنِ شَاءَ اللَّهُ ۝ إِلَهِي الْأَمَانِ

زمین است مگر کسے کہ خواستہ است خدا آے خدائے من پناہ می خواہم

الْأَمَانِ يَوْمَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

پناہ می خواہم روزے کہ جنبیدہ شود زمین جنبیدہ شدن آن

إِلَهِي الْأَمَانِ الْأَمَانِ يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاوَاتِ بِالْغَمَامِ ۝

آے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم روزے کہ شکافتہ شود آسمان مع ابر

إِلَهِي الْأَمَانِ الْأَمَانِ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاوَاتُ كَطَيِّ

آے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم روزے کہ می پیچی آسمان را مثل پیمپیدن

السَّجْلِ لِلْكِتَابِ ۝ إِلَهِي الْأَمَانِ الْأَمَانِ يَوْمَ

قبالہ برائے نوشتہ ہا آے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم روزے کہ

اے قرآن کریم میں تو اس موقعہ پر لفظ "تطوی" بصیغہ جمع منکلمہ وارد ہے۔ مگر اس دعا میں یہ لفظ
محل خطاب میں وارد ہوا ہے۔ اس لئے بصیغہ واحد حاضر اعنی "تطوی" مناسب ہے۔ یہ تشریح
مولانا محمد امجد سہٹی چشتی نظامی کی شرح دعائے سیفی سے ماخوذ ہے۔ ن۔ ففزع بحسب متن قرآن مجید

يَبْدَلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا

بدل کردہ شود زمین غیر زمین را و بدل کردہ شود آسمان ہاویروں آئند

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ

مخددا را کہ یکتائے بسیار غلبہ کنندہ است اے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ

روزے کہ نظر کند و بہ بیند مرد چیزے را کہ پیش فرستادہ است ہر دو دست او و بگوید کافر

يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ

اے کاش کہ من می بودم خاک اے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ

روزے کہ بے سود خواهد شد مال و دولت و اولاد و پسران مگر کسی کہ آمد پیش خدا

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَنَادِي

بہ قلب سلیم اے خدائے من پناہ می خواہم پناہ می خواہم روزے کہ ندای کند

الْمُنَادِي مِنَ ابْطْنَانِ الْعَرْشِ آيِنَ الْعَاصُونَ

منادی کنندہ از درون عرش خدا کہ کجا اند گناہ گاران

وَأَيِّنَ الْمُذْنِبُونَ وَأَيِّنَ الْخَائِفُونَ وَأَيِّنَ

و کجا اند گناہ گاران و کجا اند زیم کنندگان و کجا اند

الْخَاسِرُونَ هَلُمُّوا إِلَى الْحِسَابِ ۝ أَنْتَ تَعْلَمُ

زیاں گاران ہشتاب بیائید بسوئے حساب کردن عمل ہا تو می دانی

ن - الخائفون - خجاست کنندگان

سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاَقْبِلْ مَعْدِرَتِي وَتَعَلَّمْ

پنهانی مرا و آشکارائی مرا پس به پذیر بهانه و عذر خواهی مرا و توئی دانی

حَاجَتِي فَاَعْطِنِي سُؤَالِي يَا اَللهِ اَلْهُيْ اَلْمِنْ كَثْرَةَ

حاجت مرا پس عطا کنی مرا سوال من اے خدائے من افسوس از بسیاری

الذُّنُوبِ وَالْعُصِيَّانِ اَلْمِنْ كَثْرَةَ الظُّلْمِ وَالْجَفَلِ

گناهان و نافرمانی افسوس از بسیاری ستم و بدی

اَلْمِنْ النَّفْسِ الْمَطْرُودَةِ اَلْمِنْ النَّفْسِ الْمَطْبُوعَةِ

افسوس از نفس آواره رانده افسوس از دست نفس آواره سرشته شده

لِلْهُوَى اَلْمِنْ الْهُوَى اَلْمِنْ الْهُوَى اَلْمِنْ

برائے خواست و آرزو افسوس از دست خواست نفس افسوس از دست خواست نفس افسوس از

الْهُوَى يَا مَعِيثُ عِنْدَ تَغْيِيرِ حَالِي

دست خواست نفس فریاد رس مرا اے فریاد رسنده نزدیک برگشتن حالت من

اَللهِ اِنِّي عَبْدُكَ الْمُدْنِبُ الْمَجْرِمُ الْمَخْطِئُ

اے خدائے من بدرستی که منم بنده تو گناه کار مجرم کننده ناراست کار

اَجْرُنِي مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ

پناه ده مرا از آتش اے پناه دهنده اے پناه دهنده اے پناه دهنده

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَرَحَّمْتَنِيْ فَاَنْتَ اَهْلٌ وَاِنْ

خدایا اگر رحم کنی تو مرا پس تو لائق هستی و اگر

عَزِّبْنِي فَاَنَا أَهْلٌ فَارْحَمْنِي يَا أَهْلَ التَّقْوَى

عذاب کنی مرا پس من سزاوارم پس رحم کن مرا اے سزاوار پرہیزگاری

وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے سزاوارِ آمرزش و اے مہربان ترین مہربانان

وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ

اے بہترین آمرزگاروں و اے بہترین مددگاروں

حُسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ

بندہ و کافی است مرا خدا و بہترین کسے است کہ بوسے کار خود سپارند بہترین خداوند و

نِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

بہترین بسیار یاری دہندہ و درود فرستد خدائے تعالیٰ بر بہترین آفرینش خویش

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

مہتر ما کہ نام پاک وے محمد است علیہ السلام و بر آل وے و اصحاب وے تمامی

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

بہ مہربانی تو اے مہربان ترین مہربانان

شِعْرُ حَضْرَتِ امِيرِ كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

می خوانم بنام خدائے بخشاینده مہربان

أَرَادَ وَمَا كَانَ حَتَّىٰ أُرِيدَ

فَطُوبَىٰ لَهُ مِنْ مُرَادٍ مُّرِيدٍ

اُو دوستِ خویش را خواست و نتوالِ خواست تا اُو خواستہ شدہ

شد و مُتردہ اِس کس را کہ ہم مُراد است و ہم مُرید (اُو خواہان

دوست است و دوستِ خواہان اُو ہست)

اے حضرت امیرِ کاشغر سات مرتبہ پڑھیے۔ اور اپنے سینہ پر اور چاروں طرف دم کر دیجئے۔ اگر
حرزِ میانی کا مقررہ وقت قضا ہو جائے تو اس شعر کو سات دفعہ پڑھ کر پوری حرزِ میانی پڑھیے۔
ہمارے مشائخِ قدس اللہ اسرارہم کی روایت میں یہ شعر اسی طرح وارد ہوا ہے۔ مطبع
مجتبائی دہلی سے ۱۳۳۱ھ میں شائع ہونے والے نسخہ دُعائے سیفی کے صفحہ ۸۴ کے حاشیہ
پر یہ نوٹ درج ہے :-

”فائدہ: حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول ہے کہ اگر کسی
سے روزانہ وظیفہ دُعائے سیفی کا ترک ہو جائے تو اس کے تدارک اور کفارت کے لئے سات
بار یہ بیت پڑھے :-

أَرَادُ وَادَّ مَا كَانَ حَتَّىٰ أُرِيدُ

فَطُوبَىٰ لَهُ مِنْ مُرَادٍ مُّرِيدٍ

امام ابو بکر بن ابی اسحاق کلاباذی کی کتاب ”التعرف لمدھب اهل التصوف“

کے صفحہ ۴۱ پر بھی اس سے ملتا جلتا ایک شعر جناب الفیضہ ابو عبد اللہ البرقی کے ان اشعار میں ملتا ہے :-

مُرِيدٌ صَفَامُنْهُ سِرُّ الْفُؤَادِ فَهَامَ بِهِ السِّرُّ فِي كِلِّ وَادٍ

یہ ایسا مُرید ہے جس کے دل کا باطن پاک و صاف ہو چکا ہے لہذا اس کا باطن اسے ہرادی میں گراں کہے ہوئے

فَفِي آيَةٍ وَإِذِ سَعَى لَعْرَجِيذٌ لَهُ مَلْجَأٌ غَيْرَ مَوْلَى الْعِبَادِ

پس یہ جس وادی میں بھی دوڑا اُسے مخلوق کے مولیٰ کے سوا کہیں پناہ نہ ملی۔

صَفَاءِ بِالْوَفَاءِ وَفِي بِالصَّفَاءِ وَنُورِ الصَّفَاءِ سِرَاجِ الْفُؤَادِ

اس نے خالص و فاداری کا اظہار کیا اور صفائے باطن کو مکمل کر لیا۔ صفائے باطن

کا نور دل کا چراغ ہوتا ہے

أَرَادَ وَمَا كَانَ حَتَّىٰ أُرِيدَ فَطُوبَىٰ لَهُ مِنْ مُرِيدٍ مُرَادٍ

اس نے ارادہ کیا اور وہ ایسا کرنے کا نہ تھا تا آنکہ اس کا ارادہ کیا گیا۔ لہذا ایسے

مُرید اور مُراد کے لئے خوشخبری ہے

دُعَاءُ عَمَاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

می خوانم بنام خدائے بخشنائندہ مہربان

سُبْحَانَ اللَّهِ الْقَادِرِ الْقَاهِرِ الْقَوِيِّ الْجَبَّارِ الْحَيِّ

بہ پاکِ یادِ می کنم بہاکی یادِ کردن خدائے توانا پھیرہ استوار شکنندہ کاہما زندہ و

الْقَيُّومِ رَبِّ الْمَعِينِ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي

پائندہ بغیر یاری دہندہ خدایا بدرستی کہ تو خود فرمودی بخوانید شامرا

أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

قبول می کنم من دُعا برائے شما و تحقیق تو نہ خلاف می کنی وعدہ را

لے اس دُعا کو تبین مرتبہ پڑھیے۔

إِعْتَصَامُ دُعَائِ سَيِّفِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خواهم بنام خدای بخشاینده مهربان

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْحَابَ السَّحَرِ وَالْوَسْوَاسِ

قسم دادم من یا آهنگ کردم من بر شما آے یارانِ جادوگری و اندیشه بد

وَأَصْحَابِ السِّرِّ وَالْخَوَاصِ وَاعْتَصَمْتُ

و یارانِ سرّ (زُتار) و بد نظر و چنگ رزوم یعنی پناه گرفتم

بِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِحَقِّ الْخَضِرِ

من به تو آے خدای آے خدای آے خدای بحرمت ابوالعباس خضر

وَالْإِلْيَاسِ وَبِحَقِّ كَهَيْجِ مَهْيِجِ كَهْكِهَيْجِ

و ایلیاس و بحرمت عطون جلیل عطون کثیر العطف

وَجُجُوجٍ مَّرْخُوجٍ مَّرْخُوجٍ مَّهْمَجُوجٍ

دایم دیوم قدّوس کبیر

فَهْمَجُوجٍ وَبِحَقِّ أَيِّنِ أَيِّنِ زَجْرَجِرْهَمُوجٍ

متین و بحرمت واسع واسع مجیب مجیب واحد

فَخُوجٍ طَفْعَاجِ أَرْرَانِجِاسِ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا

واحد مقدّس موجود و بحرمت سردار ما

ادّم و سیدنا نوح و اعتصمت بِک من

حضرت آدم و سردارِ ما حضرت نوح و پناه گرفتیم من به تو از

شر الجن و الانس و الاهر من و الشیاطین

بدی جن و انسان و غول بیابانی و دیوان بد راه نماینده

و الجنود و الاتباع و من کل افة و عاهة

و لشکر های آنها و پیروان آنها و از هر آسیب و زحمت

و اعتصمت بِک من کل بلاء و بحق سیدنا

و پناه گرفتیم من به تو از هر رنج و اندوه و بجزمت سردار ما

دانیال و بحق ایمن و ارش و نورش

دانیال و بجزمتِ واسع واسع

و نورش و بحق اهی اشر اهی اشر اهی

و بجزمتِ یاحی یا قیوم

صبا غوث و بحق عظمتک یا الله یا الله یا

یا خالق و بجزمتِ بزرگی تو یا خدا یا خدا یا

الله احفظنی من البلاء و الافة و العاهة و

خدا نگهدار مرا از رنج و اندوه و آسیب و زحمت و

بحق سیدنا موسی و سیدنا عیسی و بحق

بجزمتِ سردارِ ما موسی و مهترِ ما عیسی و بجزمتِ

سَيِّدِنَا دَاوُدَ وَسَيِّدِنَا زَكْرِيَّا وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا

سردارِ ما داوڈ و سردارِ ما زكريا و بحرمتِ سردارِ ما

سَمَاعِيلَ وَسَيِّدِنَا يَحْيَى وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا اِدْرِيسَ

اسماعيل و سردارِ ما يحيى و بحرمتِ سردارِ ما ادريس

وَسَيِّدِنَا ثَيْبَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا

و سردارِ ما ثيبث و بحرمتِ سردارِ

لِكُونَيْنِ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ اَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

جميع عوالم رسول جن و انس حضرت احمد بن محمد بن

مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

محمد مصطفی درود فرستد اللہ بر او و بر آل و

وَسَلَّمَ وَبِحَقِّ بَابِ مَدِينَةِ الْعُلُومِ وَالْمَطَالِبِ

و سلام فرستد و بحرمت

وَإِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ وَبِحَقِّ السَّيِّدِينَ الشَّهِيدِينَ

الْمَقْبُولِينَ الْمَغْفُورِينَ الْمَكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ

الْمَخْدُومِينَ سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ

وَسَيِّدِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُمَا وَبِحَقِّ السَّيِّدِ الشَّيْخِ الْقُطْبِ

الرَّيَّانِيِّ مُجُوبِ سُبْحَانِي غُوثِ صَمَدَانِي

مِيرَانِ السَّيِّدِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ مُخِي الدِّينِ

عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ

السَّيِّدِ الشَّيْخِ قُطْبِ الْقَطَابِ خَوَاجَةِ خَوَاجِكَانِ

عَطَائِي رَسُولِ هِنْدِ الْوَلِيِّ خَوَاجَةِ بَزْرَكِ



سَيِّدِ نَاوَمَوْلِينَا حَضْرَتِ خَوَاجَه مَعِينِ الدِّينِ

حَسَنِ سَنَجَرِي چَشْتِي اَجْمِيرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وَبِحَقِّ السَّيِّدِ الشَّيْخِ شَهِيدِ الْمَحَبَّةِ مَحْبُوبِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِ نَاوَمَوْلِينَا قُطْبِ الْأَقْطَابِ

حَضْرَتِ خَوَاجَه قُطْبِ الدِّينِ بِمُخْتَارِ كَاتِي

أَوْثِي چَشْتِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ شَيْخِ

الْمَشَائِخِ شَيْخِ الْبُرُوقِ وَالْحُرُوفِ الْأَفْرَادِ فَرْدِ عَالَمِ

فَرِيدِ الدَّهْرِ سَيِّدِ نَاوَمَوْلِينَا حَضْرَتِ بَابَا

فَرِيدِ الدِّينِ مَسْعُودِ كُنْجِ شَكَرِ اجُودِ هِنِي چَشْتِي

سَنَجَرِي اِبْرَاهِيمِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مَعِينِ الدِّينِ خَوَاجَه

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ السَّيِّدِ الشَّيْخِ سُلْطَانِ
 الْعَاشِقِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَجْبُوبِ الْهَى
 سُلْطَانِ الْمُنَائِحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَضْرَتِ
 خَوَاجَةِ نِظَامِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بَدَايُونِي چِشْتِي
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ قُطْبِ الْعَالَمِ مُسْتَعْرِقِ
 بَحْرِ شَهْوَدِ مُحَمَّدٍ وَآسِيَدِنَا وَمَوْلَانَا حَضْرَتِ
 خَوَاجَةِ نَصِيرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ چِرَاغِ دِهْلِي أَوْ دِهْلِي
 چِشْتِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ مَجِيبِ النَّبِيِّ
 مَجْبُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَضْرَتِ
 خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ فخرِ الدِّينِ چِشْتِي دِهْلَوِي
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ قُطْبِ زَمَانِ غَوْتِ
 دُرَّانِ غَرِيْبِ دَرِيَّائِ رَحْمَتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
 حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ شَاهِ چِشْتِي نِظَامِي

لے یہاں ہرقاری کو اپنے سلسلہ کے شجرہ کے مطابق اولیائے عظام سے تو سب اختیار کرنا چاہیے۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِحَقِّ فَرِيدِ الْعَصْرِ

قُطِبَ زَمَانٌ جَامِعِ الْمُنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ

مُحِبِّ الرَّسُولِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ عَلِيِّ مُحَمَّدٍ

شَاهِ چشمتی نظارمی فخری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا بَدَايَةَ لَهُ وَلَا

توکل و اعتماد کردم من بر زنده آن که نیست بیج آغاز مرأورا و نیست

نَهَايَةَ لَهُ ۝ وَاعْتَصَمْتُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ

بیج پایاں مرأورا و پناه گرفتم من به تو از بدی جن

وَالْإِنْسِ بِقِرَاعَةِ السِّيْفِيِّ ۝ وَأَسْتَجِبُ دُعَائِي يَا

و انسان بخواندن دعائے سیفی و قبول کن دعائے مرا اے

غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغْنِنِي يَا مَنْ لَيْسَ

فریاد رسنده فریاد خواہاں فریاد رس مرا اے کسے کہ نیست

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ حَسْبِيَ

مانند او بیج چیزے و اوست شنواتے بینا بسندہ است مرا

اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

خدا و او بہترین کسے است کہ کار را بوسے سپارند و بہترین خداوند و بہترین

النَّصِيرُ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا

باری دہندہ و درود فرستد اللہ بر بہترین آفرینش و سے سردار ما

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ

کہ محمد است و برآل و سے و اصحاب و سے تمامی کہ پاکان

الطَّاهِرِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پاکیزگان اند و سپاس و ستائش مرخدا را کہ پروردگار جمیع عوالم است

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

بہ رحمت تو آے مہربان ترین مہربانان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بنام خداے بخشنایندہ مہربان

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

بگو آے کافران پرستش نمی کنم آنچه شما می پرستید

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ

و نہ شما پرستش می کنید آنچه می پرستم و نہ من پرستش خواہم کرد

مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

آنچه شما می پرستید و نہ شما پرستش خواہید کرد آنچه من می پرستم

لے اس سورۃ کو تین مرتبہ پڑھیے۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينٌ ۝

شمارا دین شما است و مرا دین من است

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بنام خدائے بخشنایندہ مہربان

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ هُوَ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝

بگو خدا یگانہ است خدا بے نیاز است نہ زاد

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

و نہ زادہ شدہ و نیست بیچ کس او را ہم سر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بنام خدائے بخشنایندہ مہربان

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

بگو پناہ می گیرم بہ پروردگاری صبح از شر ہرچہ آفریدہ است

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ

و از شر شب تاریک چون تاریکی او منتشر شود و از شر

النَّفٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

زنان سحرکنندہ درگرہ ہا دم زندہ و از شر ہر حاسد

اِذَا حَسَدَ ۝

چون حسد کند

۱۰۰ و ۱۰۱ ان سورتوں کو تین مرتبہ پڑھئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنام خداے بخشاینده مهربان

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ

بگو پناه می گیرم به پروردگار مردمان پادشاه مردمان معبود

النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي

مردمان از شر وسوسه اندازنده چون ذکر گفته شود پس باز رونده آن که

يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

وسوسه می افکند در سینه های مردمان از جنس جن باشد یا از جنس مردمان

دُعَاءُ طَاهِرٌ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پناه می جویم به خداے که سمیع و علیم مرأوست از آل شیطان که مرأوست مردود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنام خداے بخشاینده مهربان

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشُّكِّ وَالشَّرِكِّ وَالرِّيَاءِ

خدایا پاک کن دلم را از شک آوردن بتو دانهازی بتو طاعت خلق نما

وَزَيْنِ لِسَانِي بِالذِّكْرِ وَالْحَمْدِ وَالْتِنَاءِ ۝

و زینت ده لسان مرا به یاد کردن تو و ستودن تو و ستایش کردن تو

له اس سورة كوتيب مرتبه پرت حبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خوانم بنام خدای بخشناینده مهربان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ

خدایا درود بفرست بر سردار ما حضرت محمدؐ ما دامیکه ناموافقی کند

لَمَلَوَانٍ وَتَعَاقِبِ الْعَصْرَانِ وَتَكَرَّرَ الْجُدِيدَانِ

روز و شب و از پس هم دیگر در آیند روز و شب و بارها باز آیند روز و شب

وَاسْتَصْحَبِ الْفُرْقَدَانِ ۝ وَبَلِّغْ رُوحَ نَبِينَا

و با هم دگر یاری خواستند دو ستاره نزدیک قطب و برسان جان پیغمبر ما

وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَسْمَاءِ نَبِيِّنَا ۝

و سرور ما که نام پاک دے محمدؐ است از ما سلام آوب و خوشنودی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خوانم بنام خدای بخشناینده مهربان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

خدایا درود بفرست بر سرور ما محمدؐ و بر آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ

سرور ما محمدؐ بهترین درودهای خودت به شمار دانسته شده های تو

که از سه تین مرتبه پڑھئے لے دو ستاره نزدیک قطب شمال که گرداگرد قطب می گردند و مدام از شام تا صبح ظاهر باشند و ثابت نمی شوند۔ بزبان هند می اینسان را قطبین می گویند۔ (از غیث اللغات صفحہ ۳۱۹)

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝ حَصَّنْتُ نَفْسِي بِالْحَيِّ

و برکت بخش به وے و سلام برساں به او دیوار کشیدم من کردا کرد نفس خود به زنده و

الْقِيَوْمِ وَدَفَعْتُ عَنِّي السُّوءَ بِإِحْوَالٍ وَلَا

پائنده و دور کردم من از خودم بدی را بحرمت نیست بیچ گردیدن و نیست

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

بیچ زور مگر بخدائے بزرگ و برتر

و صل کبیر از شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین سمرودی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خوانم بنام خدائے بخشاینده مهربان

يَا إِلَهِي وَإِلَهَ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ

اے خدائے من و خدائے همه هستی ها از جنس

الْمَعْقُولَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ يَا وَاهِبَ

چیز هائے به عقل ادراک کرده شده و احساس کرده شده اے بخشنده

النَّفُوسِ وَالْعُقُولِ وَخُذِرِعَ مَا هِيَ بَاتِ

جان ها و خرد ها و نوپیدا کننده کتبه ها یعنی حقیقت هائے

الْأَرْكَانِ وَالْأَصُولِ وَيَا وَاجِبَ الْوُجُودِ وَ

کرانه ها و مبنیاد ها و اے لازم شونده هستی ها و

له رکن معنی جزو اعظم و اقوی هر شئی و کرانه کوه (المنجد، منتهی الارب، غمات اللغات) ص ۱۰۰ آئینہ بر ملاحظہ فرمائے۔

يَا فَايَسُّ الْجُودِ يَا فَاعِلَ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ

اے ریزندہ بخشش داسے پیدا کنندہ دلِ ہا و جان ہا

وَيَا جَاعِلَ الصُّورِ وَالْأَشْبَاحِ وَيَا نُورَ الْأَنْوَارِ

داسے گردانندہ بیکر ہا و کا ببد ہا داسے روشن کنندہ روشنی ہا

وَمَدَّ رِجْلَ دَوَّارِ أَنْتَ الْأَوَّلُ الَّذِي لَا أَوَّلَ

و گردانندہ ہر گردندہ توئی وجودِ نخستیں، آل کہ نیست پہچ نخستینے

بِنَاكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ الَّذِي لَا آخِرَ بَعْدَكَ ۝

پیش از تو و توئی پسین آل کہ نیست پہچ پسینے پس از تو

الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عَاجِزُونَ عَنِ ادْرَاكِ

ہم فرشتگان نزدیک گردانیدہ شدہ فروماندہ اند در یافت

جَلَالِكَ وَالْأَنْبَاءُ الْكَامِلُونَ قَاصِرُونَ

بزرگی تو و آدمیان صاحب کمال عاجز و درماندہ اند

عَنْ مَعْرِفَةِ كِمَالِ ذَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ خَلِّصْنَا

از شناختن تمام شدن ذاتِ تو خدایا خلاصی بخش مارا

ما شئنا متعلقہ صفو گزشتہ) یعنی تقاضا کنندہ ہستی لآن واجب الوجود یقتضی الوجود بالذات

کما قال السيد الشريف الجرجاني في التعريفات: "واجب الوجود هو الذي يكون

وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلاً والممكن بالذات ما يقتضی لذاته

ان لا يقتضی شیئاً من الوجود والعدم كالعالم۔

عَنِ الْعَلَائِقِ الدِّينِيَّةِ الْجُسَامَانِيَّةِ وَنَجْنَا عَنِ

از علائقہ ہائے دین و تر یعنی ادنیٰ منسوب بہ جسم ہا یعنی تن و نجات بخش مارا از

الْعَوَائِقِ الرَّدِّيَّةِ الظُّلْمَانِيَّةِ وَأَرْسِلْ إِلَى

نوائج بدو تا پسند منسوب بہ ظلمت یعنی تاریکی و بفرست بسوئے

أَرْوَاحِنَا شَوَارِقَ أَنْوَارِكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ نَفُوسِنَا

جان ہائے ما آفتاب ہائے روشنی ہائے خودت و بریز بسوئے دل ہائے ما

بِوَارِقِ أَثَارِكَ ۝ الْعُقْلُ قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرَاتِ

ابرہائے بابرق نشان ہائے خودت خورد یک چکیدہ است از چکیدہ ہائے

بِحَارِ مَمْلُوكَتِكَ وَالنَّفْسُ شُعْلَةٌ مِنْ شُعْلَاتِ

دریا ہائے عالم ملکوت تو و جان یک شعلہ است از شعلہ ہائے

نَارِ جَبْرُوتِكَ ۝ ذَاتُكَ ذَاتٌ قَيَّضَةٌ تَقِيضُ

آتش عالم بزرگتے تو ذات تو ذاتے است بسیار کثیر الفیض کہ فی ریزد

مِنْهُ جَوَاهِرُ رُوحَانِيَّةٍ لَا مَتَمَكِنَةٌ وَلَا مَتَحَيِّزَةٌ

ازوے جوہر ہائے منسوب بسوئے روح نہ جا گیرندہ و نہ کنار گیرندہ

وَلَا مُتَّصِلَةٌ وَلَا مُنْفَصِلَةٌ مُبْرَأَةٌ عَنِ الْأَحْبَانِ

و نہ پیوست شونده و نہ جدا شونده پاک و بیزار از ہنگام ہا

وَالْأَيْنِ وَمُعْرَاةٌ عَنِ الْوَصْلِ وَالْبَيْنِ فَيُبْحَانُ

و مقام ہا و خالی کردہ شدہ یعنی منزہ از پیوستن و جدا شدن پس برپا کی یا جو کم پیا کی یا جو کم

لے قطرہ ج قطرات کما فی المنجد

ن شعلات

ن جبروتک

الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَلَا تُشْبِهُهُ الْأَفْكَارُ

آن که نه درک می کند او را و دیده با او نه تمثیل زند ما نه مایه اند فکر یا یعنی اندیشه یا

لَكَ الْمَجْدُ وَالشَّانُ وَمِنْكَ الْمَنْعُ وَالْعَدْوُ

مرزا است بر بزرگی و هر ستایش و از نشت باز داشت و بخشش

وَيْكَ الْجُودُ وَالْبُقَاءُ ۝ فَبِحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ

و به تست بخشش و پاداری پس بر پاکی بادی نعمت بهای و کز آن که در

مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَ

است قدرت او تعالی است پادشاهی هر شئی و بسوئی او باز گردانید خواهی شدست و بر آفرینش و

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

درود فرستد الله بزرگ و برتر بر مهربان که نام پاک است محمد است برتر آن

أَجْمَعِينَ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ تَطَفَّأَ إِلَى اللَّهِ ۝

هر چه خواسته است خدا بیدار من مهربانی است

مَا شَاءَ اللَّهُ تَضَرَّعًا إِلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ

هر چه خواسته است خدا زاری می کنم زاری کردن بسوئی خدا هر چه خواسته است خدا

إِسْتِغَاثَةً بِاللَّهِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

فریاد می خواهم فریاد خواستن بخدا هر چه خواسته است خدا هر چه خواسته است خدا

بِاللَّهِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لِأَحْوَالِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝

کردن بخدا هر چه خواسته است خدا نیست هیچ گردیدن و نیست هیچ زور مگر بخدا

مَا شَاءَ اللَّهُ حُسْبِيَ اللَّهُ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

ہرچہ خواستہ است خدا بسندہ است مرا خدا و درود فرستد خدائے بزرگ

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

بہترین آفرینش خود مہتر ما کہ نام پاک وے محمد است و بر آل وے و یاران و

أَجْمَعِينَ ۝ أَصَلَّى وَأَسْلِمُ عَلَى سَيِّدِ

تمامی درود می فرستم من و سلام می کنم بر مہتر

الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

جمع رسل سرور ما و آفاتے ما کہ نام پاک وے محمد است و بر آل

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

و اصحاب وے تمامی

الْحَرَامِ الْبَيْتِ

مَعْرُوفٍ بِهِ

دُعَاءُ سُبْحَانَ

الْحَرْزُ الْبِيَانِيُّ

بعض نسخوں کے مطابق قاری کو چاہئے کہ حرزِ بیانی پڑھنے سے پہلے یہ ابیات پڑھے:-
آن دم کہ حالِ قصۂ دوحِ شنیذہ ایم پشتِ پناہِ حرزِ بیانی حیدریدہ ایم
چوں درپناہِ حرزِ بیانی فنا دہ ایم پادرگلوئے دشمنِ جانی نہادہ ایم
مادرپناہِ حرزِ بیانی گریختیم
خونِ ہزارِ دشمنِ جانی برختیم



حَدِيث شَرِيف

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَرَأَ الْحُرُزَ الْيَمَانِيَّ

ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرزِ یمانی پڑھے

إِنْ كَانَ جَائِعًا شَبَعَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ عَارِيًّا

اگر وہ بھوکا ہو تو اللہ اسے کھلا کر سیر کرے گا اور اگر وہ تنگ ہو

الْبَسَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ ظَمَانًا رَوَاهُ اللَّهُ وَ

تو اللہ اسے لباس پہنائے گا اور اگر وہ پیاسا ہو تو اللہ اس کو پانی پلائے گا اور

إِنْ كَانَ خَائِفًا أَمَنَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي السَّبْحِ

اگر وہ خوفزدہ ہو تو اللہ اس کو امن عطا کرے گا اور اگر وہ قید میں ہو

أَخْرَجَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَوْحِشًا أَسَّهَ اللَّهُ

تو اللہ اس کو قید سے نکالے گا اور اگر وہ تنہائی سے گھبرائے گا تو اللہ اس سے موانست

وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ أَسِيرًا

کرے گا اور اگر وہ محتاج ہو تو اللہ اس کو غنی کر دے گا اور اگر وہ ماخوذ ہو

خَلَّصَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ ضَالًّا هَدَاهُ اللَّهُ وَإِنْ

تو اللہ اس کو خلاصی دلائے گا اور اگر وہ راہ گم کردہ ہو تو اللہ اس کی رہنمائی کرے گا اور

كَانَ مَدْيُونًا قَضَى اللَّهُ دَيْنَهُ مِنْ خَزَائِنِهِ

اگر وہ قرضدار ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کا قرض ادا کرے گا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

می خواہم بنام خدائے بخشنائیدہ مہربان

اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَا إِلَهَ

خدا یا توئی اللہ پادشاہ ثابت متحقق آل کہ نیست بیچ کس معبود

إِلَّا أَنْتَ (سجدہ) أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ عَمِلْتُ

بحق مگر تو توئی پروردگار من و من بندہ تو ام کردم من

لہ جب دعائے سیفی پڑھنے والا اس مقام پر پہنچتا ہے تو تمام ملائکہ سجدہ کرتے ہیں اور ایک قول ہے کہ ستر ہزار فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ حرزِ میمانی میں کئی اشارے ہیں۔ ان میں سے کچھ اصلی اشارات اور کچھ اشارات

حاجت ہیں۔ اصلی اشارات تو پانچ ہیں اور ان میں سے بیلا اشارہ نادر ہے اور شطاریہ وغیرہ کے اتفاق سے

اس مقام پر ہے پس قاری کو چاہیے کہ یہاں سجدہ کرے اور سجدے میں پہلے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کم از

کم گیارہ مرتبہ یا اتنی مرتبہ پڑھے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام ہو جائے پھر ایک نعرہ پڑھیے: یا غیاتی

عند کل کربة و معاذی عند کل شدة و محیبی عند کل دعوة و مونسى عند کل حنة

و یارجائی جین تنقطع حیلتی یا غیاتی پھر دس مرتبہ پڑھیے: وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پھر دس مرتبہ پڑھیے: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثَهُ وَرِزْقَهُ

وَ رَاحِمَهُ سُبْحَانَكَ اور سجدہ سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھیے: اَللّٰهُمَّ

بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ الْأَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْخَفِيِّ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ

حَاجَتِي كُلَّهَا وَأَنْ تُوَصِّلَنِي إِلَى مُرَادِي وَتَنْفَع عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا

رَحِمَ الرَّاحِمِينَ يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا فَتَّاحَ تَفْتَحُ الْفَتْحَ

وَالْفَتْحَ فِي فَتْحِ فَتْحِكَ يَا فَتَّاحَ يَا رِزَّاقَ تَرْزُقُ بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقَ فِي رِزْقِ رِزْقِكَ

يَا رِزَّاقَ أَنْتَ رَبِّي كَوْتِينَ مَرْتَبَةً پڑھیے

اشارہ اول

سُوءٌ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي

کردار بد و ستم کردم من نفس خود را و اقرار کردم من به گناه خود

وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

پس بیا مرز مرا گناہان من تمامی پس زیرا کہ تحقیق شان این است کہ نیامرزد کسی گناہان را

إِلَّا أَنْتَ يَا غَفُورٌ يَا غَفُورٌ يَا غَفُورٌ يَا شَكُورٌ

مگر تو اے آمرزنده اے آمرزنده اے آمرزنده اے اندک پذیر بسیار بخش

يَا شَكُورٌ يَا شَكُورٌ يَا رَحِيمٌ يَا رَحِيمٌ يَا رَحِيمٌ

و بسیار ستاننده و ستایده اے مهربان اے مهربان اے مهربان

يَا حَلِيمٌ يَا حَلِيمٌ يَا حَلِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا

اے بردبار اے بردبار اے بردبار اے مستجمع صفات کمالیه و اے

كَرِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ

بخشش کننده بلا معاوضه اعمال صالحه خدایا بدرستی که من سپاس و ستایش می کنم ترا و حالیکه تو مرسیاس و ستایش را

أَهْلٍ عَلَى مَا خَصَّصْتَنِي بِهِ مِنْ مَوَاهِبِ

مزاواری بر نعمته که خاص گردانیدی تو مرا با آن نعمت از جنس بخشش هائے که عطا هائے

الرَّغَائِبِ وَأَوْصَلْتَ إِلَيَّ مِنْ فَضَائِلِ

کثیره است و رسانیدی تو بسوئے من از زیادتی هائے

الصَّنَائِعِ وَأَوْلَيْتَنِي بِهِ مِنْ إِحْسَانِكَ وَ

نسکوئی با و عطا کردی تو مرا با آن نعمت حالیکه آن نعمت محض از نیکوئی تست و

بَوَّأْتَنِي بِهِ مِنْ مَّطِيئَةِ الصِّدْقِ وَأَنْدَلْتَنِي بِهِ

بائے دادی تو مرا باں نعمت حالیکہ آن نعمت از جنس جائے گمان راستی است و عطا کردی تو مرا باں

مِنْ مِّنْكَ الْوَأَصِلَةَ إِلَىَّ وَأَحْسَنْتَ إِلَىَّ مِنْ

نعمت از جنس نعمت ہائے تو کہ رسدہ است بسوئے من و نیکوئی کردی تو بسوئے من از جنس

إِنْدِ فَاعِ الْبُلِيَّةِ عَنِّي وَالتَّوْفِيقِ لِي وَالْإِجَابَةِ

دور شدن بلا ہا از من و از جنس مدد کردن مرا و از جنس پذیرفتن

لِدُعَائِي حِينَ أَنْادِيكَ دَاعِيًا وَأُنَاجِيكَ

مرد عاتے مرا وقتے کہ ندا می کنم یعنی می خوانم من ترا حالیکہ خواندہ ام و وقتے کہ راز گویم من ترا

رَاغِبًا وَأَدْعُوكَ ضَارِعًا مُتَفِيئًا مُضَارِعًا مُصَافِيًا

حالیکہ خواهش کننده ام و وقتے کہ می خوانم من ترا حالیکہ فروتنی کننده ام التجا کننده ام زاری کننده ام دوستی ارندہ ام

وَحِينَ أَرْجُوكَ رَاجِيًا فَاجِدُكَ فِي الْمَوَاطِنِ

و وقتے کہ امیدوارم ترا حالیکہ امید دارندہ ام پس می یابم ترا در جنگ گاہ ہا و سختی گاہ ہا

كُلِّهَا لِي جَارًا حَاضِرًا حَفِيًّا بَارِئًا وَفِي الْأُمُورِ نَاصِرًا ۝

تمامی آن مرا قریب و یاری دہندہ در پیش آئندہ مہربان نیکو کار و در جمیع کار ہائے نیکتاری کننده

در حاشیہ منعلقہ صفحہ گذشتہ فرزالامانی علی البحر الیمانی میں علامہ سلیم الدین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے : و بدینچہ عطا

کردی مرا از احسان خویش اے متفیئ اے مُتَجَمِّدُ الْمُنْجِدِ صَفْحَةَ ۶۲)

۱۰ یہاں یہ دعاسات مرتبہ پڑھیے ۔ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

فَاِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ حَافِظًا ۝ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اور ایک مرتبہ پڑھیے :- اَللّٰهُمَّ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

وَنَاطِرًا وَّلِلْخَطَايَا وَاذْنُوبٍ غَافِرًا وَّلِلْعَيُوبِ

و بچشم عنایت نگرندہ و مرنا راستی ہا و ناصواب ہا و گناہاں را آمرزندہ و مرعیب ہا و نقصان ہا را

سَاتِرًا ۝ لَمْ أَعْدَمْ عَوْنَكَ وَبِرِّكَ وَإِحْسَانَكَ

پوشندہ گم نہ کردم من مدد ترا و نیکوئی ترا و نیکوئی کردن ترا

وَخَيْرِكَ عَنِّي طَرْفَةَ عَيْنٍ مُّذُنْ أَنْزَلْتَنِي

و نیکی و بہتری ترا از من مقدار یک پلک زدن چشم از ابتداءت زمانیکہ فرو فرستادہ تو مرا

دَارَ الْإِخْتِيَارِ وَالفِكْرِ وَالْإِعْتِبَارِ لِنَظَرِ مَا أَقْدَمَ

در مرائے خواستن و پسندیدن و اندیشہ کردن و پند گرفتن تا بہ بینی تو چہ می فرستم من

لَيْكَ لِدَارِ الْقُرَارِ ۝ فَاِنَا عَتِيقُكَ يَا مَوْلَايَ مِنْ

سُوئے تو برائے مرائے ماندن یعنی آخرت پس من آزاد نمودہ تو ام آسے خداوند من از ہمہ

جَمِيعِ الْمَضَارِّ وَالْمُضَالِّ وَالْمُصَائِبِ

گزند ہا و جاہائے گمراہی و سختی ہا و اندوہ ہا

وَالْمُعَايِبِ وَالنَّوَائِبِ وَاللَّوَارِبِ وَاللَّوَارِمِ

و عیب ہا و نقصان ہا و مصیبت ہا و نوبت بہ نوبت آیندہ و سختی ہائے چپشیدہ و بلا ہائے لازم شدنی

وَالْهُمُومِ الَّتِي قَدْ سَاوَرَتْني فِيهَا الْغُومُ

و اندوہ ہا آن کہ تحقیق بر جہد مرا یعنی بہ جنگ بر خیزد مرا در آن اندوہ ہا

لہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز کے نزدیک یہ مقام اسم اعظم کا ہے ان ہی سے یہ بھی منقول

ہے کہ یہ مقام امراض و شدائد کو رفع کرنے کا ہے۔

بِمَعَارِضٍ أَصْنَافِ الْبَلَاءِ وَضُرُوبِ جَهْدِ

اندوہ ہائے دیگر باتیر ہائے اقسام محنت و انواع رنج علم

الْقَضَاءِ ۝ إِلَهِي لَا أَدْرُكُ مِنْكَ إِلَّا الْجَمِيلَ وَ

مقدر اے معبود من یاد نہ دارم من از تو مگر خوبی و نیکی و نہ

لَمْ أَرْمِكْ إِلَّا التَّقْضِيلَ خَيْرَكَ لِي شَامِلٌ ۝ وَ

دیدہ ام از تو مگر فضل نہادن و برگزیدن خوبی تو مراد گیرندہ است و

صُنْعَكَ لِي كَامِلٌ ۝ وَ لَطْفَكَ لِي كَافِلٌ وَ فَضْلَكَ

نیکوئی نمودن تو مرا تمام است و مہربانی تو مرا ضامن تکفل است و بخشش تو

عَلَى مُتَوَاتِرٍ ۝ وَ بَعْدَكَ عِنْدِي مُتَّصِلَةٌ

بر من پیاپے است و نعمت ہائے تو نزد من پیوستہ است عہد شکنی

لَمْ تَخْفَرْ جَوَارِيَّ وَ صَدَّقْتَ رَجَائِي وَ صَاحِبَتَ

نہ کردی تو نزدیک و زہار مرا بر آوردہ ساختی تو امید مرا و مصاحبت کردی

أَسْفَارِيَّ ۝ وَ أَكْرَمْتَ أَحْضَارِيَّ وَ حَقَّقْتَ

تو سفر ہائے مرا و گرامی داشتی تو حضر ہائے مرا و روزی کردی مرا

لے "خَيْرَكَ لِي شَامِلٌ" کو تین مرتبہ پڑھیے۔ اور اس مقام پر ایک مرتبہ پڑھیے:

اللَّهُ لَطِيفٌ بَعْبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۷ حاجت کے وقت نوسواٹھانوسے (۹۹۸) مرتبہ "يَا حَفِيفُ" پڑھیے۔

ن۔ تَخْفَرُ

أَمَالِي وَشَفَيْتَ أَمْرَاضِي ۝ وَعَافَيْتَ أَنْصَارِي

امید ہائے من و شفا بخشیدی تو بیماری ہائے مرا و بہ عافیت دہشتی تو مددگاران من

وَأَحْسَنْتَ مَنَقَلِي وَمَتَوَّأِي وَلَمْ تُسْمِتْ بِي

و عمدہ ساختی تو آرام گاہ مرا و قرار گاہ من و منزل گاہ من و شادمان گردانیدی تو برغم من

أَعْدَائِي وَرَمَيْتَ مِنْ رَمَائِي ۝ وَكَفَيْتَنِي شَرَّ

دشمنان مرا و تیر اندازی کردی تو آن شخصے کہ تیر اندازی کرد مرا و بُردی از من آزار

مَنْ عَادَ أُنِي ۝ فَحَسْبِي لَكَ وَاصْبُ وَ

ہر کہ کبیتہ و وزید با من پس سپاس من مرترا ہمیشہ است مثل ابر و بیزندہ و

تَنَانِي عَلَيْكَ مُتَوَاتِرًا أَعْرَافًا مِنَ الدَّهْرِ إِلَى

سناش من بر تو پیاپے بہت و ہمیشہ است از روزگار یعنی از ازل تا

۱۰ سات مرتبہ پڑھیے بِسْمِ اللّٰهِ الشّٰفِي بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِي بِسْمِ اللّٰهِ الْمَعَانِي بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ
بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا تَضُرُّهُ مَعَ
اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
۱۱ ان دُعاؤں کو تین مرتبہ پڑھیے۔

۱۲ اس مقام پر سات مرتبہ پڑھیے :- حَسْبِي اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ
السَّوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ - اور گیارہ بار پڑھیے :- وَ مَا رَمَيْتَ اذْ رَمَيْتَ
وَلَكِنَّ اللّٰهُ دَهَى - پھر ایک دفعہ پڑھیے :- فَطِيعَ دَائِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ خَلَعُوا
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۳ یہاں تین مرتبہ پڑھیے :- يَا رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝
۱۴ یہاں دونوں مہموں کے درمیان یہ جُزوف مقلعات بر لسان قلب پڑھیے :-

کھیعص - یس - حعیسق - ق - ن

الدَّهْرِ بِالْوَانِ التَّسْبِيحُ لَكَ وَأَنْوَاعِ التَّقْدِيرِ

روزگار دیگر یعنی تا ابد باقسام و انواع به پاکی یاد کردن ترا و به گونه گونه پاکیزه گفتن مرتزا

خَالِصًا لِدِكْرِكَ وَمَرْضِيًّا لَكَ بِنَاصِحِ التَّوْحِيدِ

حالیگه پاک و بے آمیزه است از ریاء مرید کردن من ترا و حالیگه پسندیده است مرتزا بنخالصی

وَإِخْرَاصِ التَّفْرِيدِ وَإِحْصَانِ التَّحْمِيدِ

داشتن و پاک و بے امیغ گردانیدن یگانه گردانیدن و خلط کردن به حمد و

وَالْتَمَجُّجِ بِطَوْلِ التَّعْبُدِ وَالتَّعْدِيدِ لَمْ تَعْنُ

بزرگی یاد کردن به درازی عبادت کردن و شمردن نام هائے پاک تو یاری داده

فِي قُدْرَتِكَ وَلَمْ تُشَارِكْ فِي إِلَهِيَّتِكَ وَ

شدی تو در توانائی خودت و با کسے انباز نہ کردی تو در خدائی خودت و نہ

لَمْ تَعْلَمْ لَكَ مَا عَسَىٰ وَ مَا هِيَ فَتَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ

دانستہ شد مرتزا "چہ چیزیت" و کئہہ یعنی حقیقت پس تا تو باشی مر چیز ہائے

الْمُخْتَلِفَةِ فَمَا نَسَاوَلَمْ تُعَايِنِ إِذَا حَبَسَتْ

گونا گوں را ہم جنس و دیدہ نہ شدی تو وقتے کہ بر بندگی و باز داری

الْأَشْيَاءِ عَلَى الْعُزَائِمِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ لَأَخْرَقَتْ

چیز ہا را بر خواہش ہا و آہنگ ہائے گونا گوں و نہ در پند

الْأَوْهَامِ مَجْجَبِ الْغُيُوبِ إِلَيْكَ فَأَعْتَقَتْ

گمان ہائے خلاق سر پر وہ ہائے غیب ہا یعنی ناپدید ہا کہ منسوب بسونے نشت پس اعتقاد کنم من

لہ خلط کردن و دغ بہ آب۔ لہ بعض بزرگوں کے نزدیک لہ تعن سے عزائم المختلفة میں اعظم

مِنْكَ مُحَمَّدٍ وَدَانِي عَظَمَتِكَ وَلَا يَبْلُغُكَ بَعْدَ

از تو پایانی و کنارے در بزرگے تو و نمی رسد ترا دوری

الْهِمَمِ وَلَا يَنَالُكَ غَوْصُ الْفِطْنِ وَلَا يَنْتَهِي

زہمت ها و آہنگ ہائے دل ہا و در نمی یابد ترا غوطہ خوردن خرد زہرک و نہ بر پایاں می رسد

إِلَيْكَ بَصَرُ النَّاطِرِينَ فِي مَجْدِ جَبَرُوتِكَ

بسوئے تو دیدہ نظر کنندگان در بزرگی عالم صفات تو

ارْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمُخَلُوقِينَ صِفَاتُ

برتر شد یعنی منزہ است از بیان کردن آفریدہ شدگان بیان ہائے

قُدْرَتِكَ وَعَلَا عَنْ ذِكْرِ الْأَكْرَبِينَ كِبْرِيَاءُ

توانائے تو و برتر شدہ یعنی منزہ است از یاد کردن یاد کنندگان فرہمندی

عَظَمَتِكَ فَلَا يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتُ أَنْ يَزِدَّ

بزرگواری تو پس نمی کاہد پیچھے کہ خواستی تو ایں کہ بيفزاید آن چیز

وَلَا يَزِدُّ مَا أَرَدْتُ أَنْ يَنْتَقِصَ وَلَا يَضِدُّ

و نمی افزاید پیچھے کہ خواستی تو ایں کہ بکاہد آن چیز و بیچ مقابلے آشکارا

شَهِدَاكَ حِينَ فَطَرْتَ الْخَلْقَ وَلَا يَدْحَضُكَ

نہ بود ترا وقتے کہ تو آفریدی خلق را و نہ اہل از سرین اہل ترا

لہ یہاں اشارہ مجتہ ہے مطلوب کا تصور رکھتے ہوئے مجتہ کے لئے ہیں متبرک چہیے۔ یا جمیل

تَجَمَّلْتُ بِالْجَمَالِ وَالْجَمَالُ فِي جَمَالِ جَمَالِكَ يَا جَمِيلُ

حِينَ بَرَأْتَ النَّفُوسَ ۝ كَلَّتِ الْأَلْسِنَةُ عَنْ

بچوں آفریدی جان ہا را گنگ شدہ است زبان ہا از

تَفْسِيرِ صِفَتِكَ وَانْحَسَرَتْ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ

باز گفتن صفت تو و درماندہ شدہ است خرد ہا از حقیقت

مَعْرِفَتِكَ وَكَيْفَ يُوَصِّفُ كُنْهُ صِفَتِكَ يَا

شناسائی تو و چگونه گفتہ شود حقیقت صفت تو اے

رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَأَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ

پروردگار من اے پروردگار من اے پروردگار من و حال آنکہ تویی خدا و خداوند ہمہ چیز

الْحَبَّارِ الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ

زبردست یگانہ زورمند پاکیزہ از ہمہ نابالستہا صاحب سلامتی

الَّذِي لَهُ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ مُبَيَّنًّا

آں کہ ہمارا ہستی خداوند زمان بے آغاز خداوند زمان بے انجام خداوند زمان متمدن و قدیم پیوستہ

فِي حُجُبِ الْغُيُوبِ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ

باشندہ در حجاب ہائے ہفتن حقیقت یگانہ و یجتائی تو نیست بیچ انبارے

لَكَ ۝ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ

مر ترا نیست در آں سراپردہ غیب ہا بیچ کسے جز تو و نیست بیچ

لَهُ اس کا تین مرتبہ تکرار کرے اور اس مقام پر جناب باری سے حاجت طلب کرے۔ بعض نسخوں میں دیکھا گیا ہے کہ اَنْتَ اللّٰه سے متعجباً ایک دم پڑھنا چاہیے۔ پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اپنے طلب کا تصور رکھے۔ اس مقام پر تمام اہل دعوت کے نزدیک اسم اعظم ہے۔

لَهُ سُورَاكَ ۝ حَارَتْ فِي بَحَارِ مَلَكُوتِكَ

سیتہ بحق درائے تو سرسیمہ و آشفندہ اندور دریا ہائے ذاتِ محیط تو و

عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّقْوِيْرِ وَتَوَاضَعَتْ

مظاہرِ عامۃ تو دور دراز راہ ہائے نیک اندیشیدن و فروتن شدہ اند

لِسُلُوْكَ لِهَيْبَتِكَ وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ بِدَلَّةِ

بادشاہاں پیش بیم ناکئی بارگاہ تو و خوار و زار و فرود افتادہ اند روہائے خلائق بخواری

اِسْتِكَانَةٍ لِعِزَّتِكَ وَاَنْقَادِكَ كُلِّ شَيْءٍ

نزدتئی و زاری بجمت ارجمندی و بزرگی تو و گردن دادہ است ہر چیزے

عَظَمَتِكَ وَاَسْتَسَلِمُ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ

است بزرگی تو و گردن نہادہ است ہر چیزے بجمت توانائے تو

رَبُّوْبِيَّتِكَ وَخَضَعَتْ لَكَ الرِّقَابُ وَكُلُّ

پروردگاری تو و بہ فروتنی افتادہ است بجمت تعظیم تو گردن ہائے ہمہ

دُنْ ذَلِكَ تَجِيْرُ اللُّغَاتِ وَضَلَّ هُنَالِكَ

زینش و گنگ در ماندہ شدہ ہر چیزے نزد آن صفت ہائے تو آراستن نیک بیان کردن سخن ہادگم شدہ

لِسَادْبِيْرِ فِي تَصَارِيْفِ الصِّفَاتِ ۝ فَمَنْ

س جابعتی در تمام صفات چارہ بے چارگان آفرینش بیان و تفصیل نمودی ہائے بیان ہائے عمل تو پس ہر کہ

شیطان کے شر سے امن میں رہنے کے لئے ستر (۱) متپڑھئے۔ اَلْمَلِكُ الْجَبَّارُ اُور یہ اسم دہزار مرتبہ

پڑھئے۔ يٰمُبْدِي الْبَرَايَا وَمَعِيْدَ هَابِعْدَ فَنَاهَا لِقُدْرَتِهِ يٰمُبْدِي۔

تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ طَرْفُهُ إِلَيْهِ حَسِيرًا وَعَقْلُهُ

اندیشہ کرد در آن صفات بازگشت دیدہ او بسوی آن کس عاجز و درماندہ و خرد او

مَبْهُوتًا وَتَفَكَّرَهُ مُتَحِيرًا ۝ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

سرگردان و اندیشہ او سرگشته خدایا مرتزا است تمامی سپاس ستائش

حَمْدًا كَثِيرًا إِذِ اسْمَاؤُهُمُ إِلَى يَوْمِ تَوَاتُرِ امْتِساقًا

می ستائم ترا استیون بسیار همیشه پی به پی و تو بر تو فراهم آئیدہ و تمام شوندہ

مُسْتَوْثِقًا يَدُومٌ وَلَا يَبِيدُ غَيْرَ مَفْقُودٍ فِي

محکم و استوار کہ پیوستہ ماند و نہ گسلد نہ کم شدہ یعنی پذیرفتہ در

الْمَلَكُوتِ وَلَا مَطْمُونٍ فِي السُّعَالِ عِوَالًا

عالم صفات قدیمہ تو و نہ بے نشان گشتہ در مظاہر صفات تو کہ کائنات است و کم

مُنْتَقِصٍ فِي الْعِرْفَانِ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى

نہ پذیرندہ در شناختن تو پس مرتزا است ہمہ ستائش بر

مَكَارِمِكَ الَّتِي لَا تَخْصِي فِي اللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ

نوازش ہائے تو آن کہ نہ شمرده شود در شبان گاہ و قتی کہ برگردد

وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرَوْا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْغَدْوِ

شب و بامدادان و قتی کہ آفاق روشن گردد و در دشت و دریا و در اول روز

وَالْأَصَالِ وَالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالظُّهَيْرِ

و شام گاہان و شب و صبح و وقت برگردیدن روز

وَالْأَسْحَارِ دَوِي كُلِّ جَزءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ

باز گشتن شب و در هر پارہ از پارہ ہائے شب

وَالنَّهَارِ ۝ اللَّهُمَّ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَحْضَرْتَنِي

روز خداوند ابہ سامان درست کردن خودت ہر آئینہ پیش آوردی مرا

لِنَجَاةٍ وَجَعَلْتَنِي مِنْكَ فِي وِلَايَةِ الْعُصْمَةِ

ستگاری و گردا بندی تو مرا از فضل و کرم خودت در دست یافتن من نگہداشتن از

وَالرَّشَادِ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْكَ فِي سُبُوغِ نَعْمَائِكَ

خوف گناہاں و در دست یافتن ہدایت پس ہمیشہ ستم من از طرف تو در فراخی ناز و آسائش تو

وَتَتَابِعُ الْآيَاتِ مَحْرُومًا سَأَلْتُكَ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْتِنَاعِ

در پیای آمدن نعمت ہائے تو نگہبانی کردہ شدہ بخت خدمت خودت در باز گردا بندی و در باز استناد

وَمَحْفُوظًا لَكَ فِي السُّنْعَةِ وَالِدِّفَاعِ عَنِّي وَ

نگہداشتہ شدہ بخت طاعت تو در باز داشتن تو آن نعمت ہا از من و رنگ آوردن آنها از من و نہ

یہاں اہم امور کی کھیل کا اشارہ ہے بوقت حاجت پڑھیے :- یَا حَكِيمُ تَخَكَّمْتَ بِالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةُ

فِي حِكْمَتِكَ حِكْمَتِكَ يَا حَكِيمُ ۝ یہاں نفع حاصل کرنے کا اشارہ ہے ان دونوں عینوں کے

در بیان زبان دل سے یہ حروف مقطعات پڑھیے :- الح۔ المص۔ المر۔ طہ۔ طس۔ ص۔ جو

در یہاں یہ دعا پڑھیے :- اللَّهُمَّ فَزِّجْ هَبِّي وَكْتِفْ غَمِّي وَاهْدِكْ عِلْمِي وَانصُرْ نِي عَمِي مَنْ

ظَلَمَنِي وَاجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَاجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَبِّي وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي ۝

اللَّهُمَّ اسْتَعِثْ شَمَاتَتَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَبَدِّلْ أَحْوَالَهُمْ وَزَلِّزْ أَقْدَامَهُمْ وَتَصِرْ

عَمَارَهُمْ وَاشْغَلْهُمْ بِأَبْدَانِهِمْ وَنَكِّسْ أَعْلَامَهُمْ وَخُذْهُمْ أَخَذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ صِرْ ۝

لَمْ تَكِلْنِي فَوْقَ طَاقَتِي وَلَمْ تَرْضَ عَنِّي إِلَّا

طاعت فرمودی تو مرا افزون بر توانائی من و نه پسندیدی از من بجز

طَاعَتِي ۚ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

فرماں بری من پس بدرستی که تو تویی اللہ آن کہ نیست هیچ پرستیدہ بحق: بجز

أَنْتَ لَمْ تُعِيبْ وَلَا تَغِيبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَلَا تُخْفِي

ذات تو ناپدید نیستی تو و نه ناپدید شود از علم تو هیچ ناپدید شونده و پوشیدہ نمی ماند

عَلَيْكَ خَائِفَةٌ وَلَكِنْ تَصِلُ عَنْكَ فِي ظُلْمٍ

بہ لہ تا در تاریکی تو ایچ نہاں شونده و ہرگز نمی شود از احاطہ علم تو در تاریکی ہائے

الْحَقِيَّاتِ ضَالَّةٌ ۚ إِنَّمَا أَمْرٌ إِذَا أَرَادْتَ شَيْئًا

پہاں شانی ہا ہیچ کم شونده جزا پس نیست فرمان تو وقتے کہ خواہی تو چیزے را

أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ایں کہ بگویی تو مرآں چیز را شو پس می شود آن چیز خدا یا مر ترا است ہمہ سپاس و ستائش

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ ثَمَّ دَفَعْتُ هَيْئَةَ أَوْ سَجْدَةً كَيْتِي سَجْدَةً فِي بَيْتِ كَمِ أَرْكَمِ الْمَرْتَبَةِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

عند کل کوبتہ و معانی عند کل شدتہ و محبتی عند کل دعوتہ و مؤنسب عند کل وحشتہ و باجائی عند کل

جیلتی یا غیبانی پڑھیے پھر وس مرتبہ پڑھیے و افضوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پھر

وس مرتبہ پڑھیے: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارْتَهُ وَوَارَقَهُ وَرَاحِمَهُ ۚ سُبْحَانَكَ

پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دو نوا پڑھ بلند کر کے یہ دو عامانگیے: اللہ بحق سرھذا الاسرار بحق کرمک الخفی و بحق

اسمک الاعظم اسمک ان تقضی حاجتی کلھا وان توصلنی الی مرادی و تدفع عنی شر جمیع

خلفک یا ارحم الراحمین. یا من انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ۚ فسُبْحَانَ

الذی بیدہ مدکوت کل شیء و الیہ ترجعون ۚ یا باسط تبسطت بالسط و البسط فی بسط

بسطک یا باسطہ یا رزاق تزوت بالرزق و الرزق فی رزق رزقک یا رزاق ۚ

اشارہ دوم

مِثْلَ مَا حَمِدْتُ بِهٖ نَفْسَكَ وَحَمِيدًا لَكَ بِهٖ

مانند چیزے کہ ستودہ تو ہاں چیز ذاتِ خودت را ستودہ اند ترا ہاں چیز

الْحَامِدُ ذُو نَوْجٍ وَبِحَمْدِكَ بِهٖ الْمُتَمَجِّدُ ذُو نَوْجٍ

ستایش کنندگان و بہ بزرگی یاد کردہ اند ترا ہاں چیز بہ بزرگی یاد کنندگان و

كِبْرًا كَبَّرَكَ بِهٖ الْمُكَبِّرُونَ وَهَلَّلَكَ بِهٖ الْمُهَلِّلُونَ

تکبیر گفتہ اند ترا ہاں چیز تکبیر گویندگان و یگانہ داشتند ترا بوسے یگانہ دارندگان

وَوَحَّدَكَ بِهٖ الْمُوَحِّدُونَ وَعَظَّمَكَ بِهٖ

ویگانہ گویند ترا بوسے یگانہ گویندگان و گرامی دارند ترا بوسے

الْمُعَظِّمُونَ وَسَبَّحَكَ بِهٖ الْمُسَبِّحُونَ وَ

گرامی دارندگان و پاکیزہ گویند ترا بوسے پاکیزہ گویندگان و

قَدَّسَكَ بِهٖ الْمُقَدِّسُونَ ۝ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ

بہاکی یاد کنند ترا بوسے بہاکی یاد کنندگان تا آنکہ شود مرترا

مِنِّي وَحَدِيثِي فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَأَقْلَمٍ مِّنْ

از طرف من حالیکہ من تنہا ام در ہر پلک زدن چشم و در کتر از آن

ذَلِكَ مِثْلُ حَمْدِ جَمِيعِ الْحَامِدِينَ وَتَوْجِيهِ

(پلک زدن) مانند ستایش ہمہ ستایش کنندگان و مانند یگانہ

أَصْنَافِ الْمُوَحِّدِينَ وَالْمُخْلِصِينَ وَتَقْدِيسِ

دانستن اقسام یگانہ دانندگان و طاعتِ خاص بوسے یاد کنندگان و مانند بہاکی منسوب کردن

أَجْنَابِ الْعَارِفِينَ وَشَاءَ جَمِيعِ الْمُهَلِّينَ

گوناگون شناسندگان و مانند ستایش ہمہ لآ اللہ الا اللہ گویندگان

الْمُصَلِّينَ وَالْمُسَبِّحِينَ وَمِثْلُ مَا أَنْتَ بِهٖ

نماز کنندگان و بی پائی یاد کنندگان و مانند چیزے (یعنی ستائشے) کہ تو سزاوار

رَبِّ عَالَمٍ عَارِفٌ وَهُوَ مُحْتَجِبٌ وَحُجُوبٌ

ہے آں ستائش دانائے شناسائے و آں ستائش پوشیدہ است و پوشیدہ شدہ است

مِّنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ

از تمامی آفرینش تو ہمہ آں آفرینش از جنس چیز ہا کہ موصوف بہ حیات

وَالْبَرَّايَا وَالْأَنْعَامِ ۝ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي بَرَكَاتِ

و از خفقاں و از آفرینش و خواہش می کنم من بسوائے تو در فرزونی و بسپاس

مَا أَنْطَقْتَنِي بِهِ مِنْ حَمْدِكَ فَمَا أَيْسَرَمَا

آنچه گویا کردہ مرا بویے از سپاس و ستائش تو پس چه قدر آسان تر است چہ

كَلَّفْتَنِي بِهِ مِنْ حَقِّكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي

کہ تکلیف کردہ تو مرا بآن از حق خودت و چہ بزرگ تر است چیزے کہ وعدہ کردہ تو مرا

بِهِ عَلَى شُكْرِكَ ۝ ابْتَدَأْتَنِي بِالنِّعَمِ فَضَلَّ

بآن بر سپاس کردن تو نخست آفریدی مرا بہ نعمت ہا از روی بخشش

لِي يَهْمًا دَوِيمًا كَمَا كُنْتُ فِي بَيْنِ يَدَيْهِ بِسَانَ قَلْبِي بِحُرُوفِ مَقَطَّاتِ طَرِيْقَتِي ۝ كَهَيْعَصِ

دس - حمصسق - ق - ن -

وَطَوْلًا وَأَمَرْتَنِي بِالشُّكْرِ حَقًّا وَعَدُّ لَأَوْعَدَنِي

وکشایش و فراخی و فرمودی تو مرا به سپاس خویش از روتنی حق و انصاف و وعده کردی تو مرا

عَلَيْهِ أَضْعَافًا وَمَزِيدًا وَأَعْطَيْتَنِي بِهِ مِنْ

بر آن دو چندان یا و افزونی و گری (یعنی ثواب جداگانه) و عطا کردی تو مرا به سبب شے از

رِزْقِكَ الْوَاسِعِ رِزْقًا وَاسِعًا كَثِيرًا اخْتِيَارًا

روزی خود فراخ رزق واسع و بسیار از روتنی پسندیدگی

وَرِضًا وَسَأَلْتَنِي مِنْهُ شُكْرًا يَسِيرًا صَغِيرًا

و خوشنودی و خواستی تو و سوال کردی تو مرا از آن روزی سپاس اندک خورد و کوچک

إِذْ جَحَيْتَنِي وَعَافَيْتَنِي مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ۝

وقتی که نجات دادی و رها نمودی تو مرا در عافیت داشتی تو مرا از زنج محنت و کوشش رسانیدن

وَمَسَلْتَنِي لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبَلَاءِكَ وَجَعَلْتَ

و نه سپردی تو مرا امر بدی حکم نقد خود را و محنت و کوشش رسانیدن خودت را گردانیدی

مَلْبَسِي الْعَافِيَةَ وَأَوْلَيْتَنِي الْبَسْطَةَ وَالرِّخَاءَ ۝

پوشش من عافیت را و عطا کردی تو مرا فراخی و آسانی

وَشَرَعْتَنِي فِي الدِّينِ أَيْسَرَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

و ابتدا کردی تو مرا در باره دین آسان ترین قول و فعل

وَسَوَّغْتَنِي أَيْسَرَ الْقَصْدِ وَصَاعَفْتَنِي

و بخشیدی تو مرا آسان ترین راه روی و افزون گردانیدی تو مرا

أَشْرَفَ الْفَضْلِ وَالْمَزِيدِ مَعَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ

بزرگ ترین بخشش زائد و افزوں با چیز سے کہ وعدہ کردی تو مرا باں چیز

مِنَ الْمَحَجَّةِ الشَّرِيفَةِ ۝ وَبَشَّرْتَنِي بِهِ مِنْ

از راہ روشن بزرگ و مزیدہ دادی تو مرا باں چیز از

الذَّرَجَةِ الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ ۝ وَأَصْطَفَيْتَنِي

پانگاہ برتر و بلند بزرگ و برگزیدی تو مرا

بِأَعْظَمِ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَدَعَاةً وَأَفْضَلِهِمْ

بہ بزرگ ترین پیغمبران از روئے درجہ و از روئے اظہار دین و بہترین آن ہا

لِنَافَعَةٍ وَأَوْضَحِهِمْ حُجَّةً وَأَقْرَبَهُمْ

بانے ما از روئے نفاعت کردن و روشن ترین آنہا از روئے دلیل و برہان و قریب ترین آنہا

مَنْزِلَةً سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

از روئے منزلت سردار و ستر ما کہ نام پاک ہے محمد است درود فرستد اللہ بر او و بر آل او

وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝

و سلام فرستد بر تمامی پیغمبران و فرستادگان

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا

خدا یا بیامرز مرا چیز سے کہ نمی گنجد و نہ گنجائش کند آن را مگر آمرز گاری تو و نہ

يَسْحَقُهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا يَكْفِرُهُ إِلَّا تَجَاوُزُكَ

نیست گرداند او را مگر درگذشتن تو و نہ مکافات کند (نمی پوشاند) او را مگر بہم درگذشتن تو

وَفَضْلِكَ وَهَبْ لِي فِي يَوْمِي هَذَا أَوْلِيَّتِي

و افزونی رحمت تو و به بخشش و بده مرا درین روز من و شب من

هَذِهِ وَوَقْتِي هَذَا وَشَهْرِي هَذَا وَسَنَّتِي

که این است و وقت من که این است و ماه من که این است و سال من

هَذِهِ وَسَاعَتِي هَذِهِ يَقِينًا صَادِقًا يَهْوُونَ

که این است و ساعت من که این است یقیناً مطابق واقع یعنی راست (اعتقاد استوار)

عَلَى مَصَائِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحْزَانِهِمَا

که آسان کند بر من مصیبت های دُنیا و آخرت و اندوه پلّے این هر دو را

وَيَسْتَوْقِنِي إِلَيْكَ وَيُرْعِبُنِي فِيمَا عِنْدَكَ

و گراشت مندی کند مرا بسوی تو و خواهش مند گرداند مرا در چیزے که نزد توست و

وَاكْتُبْ لِي عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ وَبَلِّغْنِي الْكِرَامَةَ

بنویس برائے من پیش جناب خودت آمرزش را و برساں مرا بزرگی

مِنْ عِنْدِكَ وَأَوْرِعْنِي شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ

از نزد خودت و در دل انداز مرا سپاس چیزے که بخشس کردی تو بآن

عَلَيَّ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ

بر من پس بدرستی که تو تویی خدائے یکتا یگانه

الْمُبْدِي الرَّبُّ الرَّفِيعُ الْخَلَّاقُ الْبَدِيعُ

آفریننده پروردگار بلند و برتر بسیار تخلیق کننده نوپیدا کننده

السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ لِأَمْرِكَ مُدْرِعٌ

شنوا دانا آن کہ نیست مرفزان تو ایچ باز انداختے

وَأَعَنْ قَضَائِكَ مُمْتَنِعٌ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَبِّي

و نیست از حکم رانده تو ایچ کس سر باز زننده و گواہی می دهم من ایس کہ تو پروردگار منی

وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

و پروردگار ہر چیزے آفرینندہ آسمان با و زمینے

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ

دانندہ پنہاں و آشکارائے بزر و بلندترے بزرگے برترے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأُمْرِ وَالْعَزِيمَةَ

خدا یا بدرستیکہ من سوال می کنم ترا یعنی می خواهم از تو استواری در کار نیکے آہنگ کردن

عَلَى الرَّشْدِ وَالشُّكْرَ عَلَى نِعْمِكَ وَأَسْأَلُكَ

بر راہ راست و سپاس داشتن بر نعمت ہائے تو و می خواهم از تو

مِنْ كُلِّ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَمَا لَا أَعْلَمُ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ

منجملہ ہر نیکی کہ تو می دانی و نہ می دانم من اُورا و پناہ می گیرم بہ تو

یہاں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگئے :- اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ الْاَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْخَفِيِّ وَبِحَقِّ
اسْمِكَ الْاَعْظَمِ اَسْأَلُكَ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي كُلَّهَا وَاَنْ تَوْصِلَنِي اِلَى مَرَادِي وَتُدْفِعَ
عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ يَا مَنْ اِثْمًا مَرَّةً اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ
لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ط فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ يَا
لَطِيْفٌ تَلَطَّفْتَ بِاللُّطْفِ وَاللُّطْفُ فِي لُطْفِ لُطْفِكَ يَا لَطِيْفٌ ۝ يَا رَزَّاقُ تَرَزَّقَتْ
بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقُ فِي رِزْقِ رِزْقِكَ يَا رَزَّاقُ ۝

يَا إِلَهِي مِنْ جَوْرِ كُلِّ جَائِرٍ وَظَلَمِ كُلِّ ظَالِمٍ

اے معبود من از ستم ہر ستم گارے و از ظلم ہر ظالمے

وَكَيْدِ كُلِّ كَايِدٍ وَغَدْرِ كُلِّ غَادِرٍ وَبَغْيِ كُلِّ

وازد اندیشتی ہر بداندیشے و از بے وفائی ہر بے وفائے و از سرکشی ہر

بَاغٍ وَحَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ وَحَقْدِ كُلِّ حَاقِدٍ

سرکشتے و از بدخواہی ہر بدخواہے و از کینہ توڑتی ہر کینہ توڑے

وَمَكْرِ كُلِّ مَآكِرٍ وَشَمَاتِهِ كُلِّ شَامِتٍ وَ

و از فریب ہر فریب دہندہ و از بدگوئی ہر بدگوئے و

كُتْحِ كُلِّ كَاشِحٍ وَسِحْرِ كُلِّ سَاحِرٍ ۝ بِكَ

از پوشیدہ دشمنی ہر پوشیدہ دشمنے و از جادوئے ہر جادوگرے بہ قوت تو

أَصُولُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَإِيَّاكَ أَرْجُو وَلَا يَهْ

حملہ می آرم و فیروز مندمی شوم بر ہمہ دشمنان و خاص ترا یعنی مخصوص از تو امید دارم مہربانی

الْأَحْبَاءِ وَالْقُرْبَاءِ ۝ وَكَالْحَمْدِ عَلَى مَا

دوستان و نزدیکان و ہم کاران و مرزا است ہر نوع سپاس و ستائش بر چیزے کہ منی

لَا أَسْتَطِيعُ إِحْصَاءَهُ وَلَا تَعْدِيدَهُ مِنْ

توانم من شماردن آں و نہ شمار کردن آں از

عَوَائِدِ فَضْلِكَ وَعَوَارِفِ رِزْقِكَ وَالْوَانَ

جنس سود ہائے بازگردندہ بخشش افزون تو و از جنس نیکی ہائے مشہورہ رزق تو و انواع چیزے کہ

مَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ إِرْفَادِكَ ۖ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ

عطا کردہ تو مرا از جنس عطا کردن خودت زیرا چه بد رستیکه تو توئی خدا

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۚ أَنْتَ الْفَائِزِي فِي الْخَلْقِ

اں کہ نیست هیچ معبودے بحق مگر تو توئی کہ ہر جا رسیدہ است در خلق

حَمْدِكَ ۚ أَلْبَاسُ بِالْجُودِ يَدُكَ ۚ وَلَا تُضَارُّ

ستائش تو کُشادہ است بہ بخشیدن دست قدرت تو و زیاں زدہ نیستی

فِي حُكْمِكَ وَلَا تُنَارِعُ فِي سُلْطَانِكَ وَمُلْكِكَ

تو در فرمان خویش و نہ کشاکش کردہ می شوی تو در تسلط و قدرت خودت و در پادشاهی

وَأَمْرِكَ ۚ تَمْلِكُ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا تَشَاءُ وَلَا

خودت و در کار و حکم خودت مالک می شوی از آفرینش چیزے را کہ می خواهی و نہ

يَمْلِكُونَ مِنْكَ إِلَّا مَا تَرِيدُ ۚ اللَّهُمَّ إِنَّكَ

خداوند مالک می شوند آن آفرینش از تو مگر چیزے را کہ تو می خواهی خدا یا بد رستیکه تو

یہاں اشارہ جاہ ہے وقت حاجت لا الہ کو مد سے کھینچے اور کھڑے ہو جائیے اور الا انت کو مد سے کھینچ کر

بیٹھ جائیے اور سجدہ کیجیے سجدہ میں تین مرتبہ کہیے۔ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظَمُ الْاَحْسَنُ ۚ

یہاں دو نویموں کے درمیان بہ لسان قلب یہ جزون مقطعات پڑھیے :- کہی بعض بیس جمعہ سن

ق۔ ن۔ لہ یہاں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگیے :- اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ الْاَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْحَقِيقِ

وَبِحَقِّ اِسْمِكَ الْعَظَمِ اَسْئَلُكَ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي كُلَّهَا اَنْ تُوْصِلَنِي اِلَى مُرَادِي وَتَنْفَع

عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۚ يَا مَنْ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ

لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۚ يَا عَزِيْزَ

تَعَزَّزْتَ بِالْعِزَّةِ وَالْعِزَّةُ فِيْ عِزَّةِ عِزَّتِكَ يَا عَزِيْزَ ۚ يَا رَزَّاقَ تَرَزَّقْتَ بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقُ

فِي رِزْقِ رِزْقِكَ يَا رَزَّاقَ ۚ

اشارہ سوم

أَنْتَ الْمُحْسِنُ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ

توئی نیکی کننده نعمت بخشنده افزاینده و برکنار کننده توانائی غالب چیره

الْمُقْتَدِرُ الْقُدُّوسُ فِي نُورِ الْقُدْسِ تَرَدَّدَيْتَ

بسیار توانا بسیار مبارک و بسیار پاک در روشنی و فروغ پاکیزگی چادر پوشیده تو

بِالْعِزِّ وَالْعُلَاةِ وَتَارَتْ بِالْعُظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ

بازجهد بزرگی و برتری و ازار پوشیدی تو یعنی خود را نهفتی به بزرگی و بزرگواری

وَتَغَشَّيْتِ بِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ وَتَجَلَّيْتِ بِالْمُهَابَةِ

و خود را پنهان کرده به فروغ و تابش و پوشیده تو به بزرگی و خوبی

وَالْبَهَاءِ ۝ لَكَ الْمَنْ الْقَدِيمُ وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ

و زیبائی مرترا است نعمت دادن و منت نهادن دیرینه و از آن نست افزائش توانش

وَالسُّلْطَانُ الشَّامِخُ وَالْمَلِكُ الْبَارِخُ وَالْجُودُ

بزرگ ترا است حجتی بس بلند و پادشاهی بس برتر و بخشش

الْوَاسِعُ وَالْفَيْضُ الشَّامِعُ وَالْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ

فراخ و فیض بس عام و توانائی تمام

وَالْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ ۝ فَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا

و دانش و توانش بحد خویش رسیده پس مرترا است هر نوع ستایش و سپاس بریں که

جَعَلْتَنِي مِنْ أُمَّةٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

گردانیدی مرا از امتیان سرور ما محمد درود فرستد خدا

لِي فِيهَا وَدَرْتَهُ بِرُحْمَةٍ يَا إِلَهَ الْإِلَهَةِ الرَّفِيعِ جَلَّ لَهُ يَا إِلَهَ ۝

عَلَيْهِ وَالْإِلَهَ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَفْضَلُ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ

برے و بر آل سے و سلام فرستد و حال آں کہ سے بہترین فرزندان آدم است آناں کہ

كَرَّمَتْهُمْ وَحَمَلَتْهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبِحْرِ وَرَزَقَتْهُمْ

بزرگی دادہ تو آناں را و برداشتہ تو آناں را در خشکی و تری و روزی دادہ تو آناں را

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلَتْهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ

از پاکیزہ خوردنی ہا و بزرگ داشتی آناں را بر بسیارے از جنس

خَلَقْتَهُمْ مِّنْ أَهْلِهَا وَخَلَقْتَنِي سَمِيعًا بَصِيرًا

کسانیکہ تو پیدا کردہ آناں را حالیکہ آناں از اہل آل امت اند و آفریدہ تو مرا شنوا بینا

صَاحِبًا سَوِيًّا سَأَلْتُكَ عَافَاؤًا وَلَمْ تَشْغَلْنِي

تندرست راست قد درست و سلم عافیت دادہ شدہ نہ مشغول ساختی تو مرا

بِنَقْصَانٍ فِي بَدَنِي وَلَمْ تَمْنَعْنِي كَرَامَتَكَ

بہ بیچ کمی در تن من و نہ باز داشتی تو مرا یعنی از من نوازش تو

أَيَّايَ وَحُسْنَ صَبِيْعِكَ عِنْدِي وَفَضْلَ

کہ مرا است و خوبی و نیکوئی تو کہ نزد من است و افزونی

مَنَائِحِكَ لَدَيَّ وَنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ۝ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ

بخشش ہائے تو کہ نزد من است و نعمت ہائے فائزہ تو بر من بدستیکہ تو تویی خدا

اے دونوں مہیوں کے درمیان بہ لسان قلب یہ حروف مقطعات پڑھیے :- کھيحص

یس - حمسق - ق - ن -

یہ جسے مسخر کرنا مطلوب ہو اس کا تصور کیجئے -

الَّذِي أَوْسَعَتْ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رِزْقًا

آن کہ فراخ گردانیدی تو بر من در این جہاں و آن جہاں روزی را

وَفَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ تَفْضِيلًا

و بزرگ داشتی مرا بر بسیارے از آفرینش خویش بزرگ داشتی

فَجَعَلْتَنِي سَمْعًا يَسْمَعُ آيَاتِكَ وَعَقْلًا يَفْهَمُ

پس ساختی تو مرا گوشے کہ بشنود آیات ترا و دادی مرا عقلے

إِيمَانًا وَبَصِيرَةً قَدْ رَتَّكَ وَفُؤَادًا يَعْرِفُ

کہ نیک می سجد ایمان ترا یعنی بخشش دینیائی کہ بہ بیند توانائی ترا در ہر کار و دادی دلے (صنوبری کہ

عَظَمَتِكَ وَقَلْبًا يَعْتَقِدُ تَوْحِيدَكَ ط فَرَانِي

از عالم خلق است) کہ می شناسد بزرگی ترا و دلے (حقیقی کہ از عالم امر است) کہ نیک می پذیرد و می اندکجاگی و

لِفَضْلِكَ عَلَيَّ حَامِدٌ وَأَنَّكَ نَفْسِي شَاكِرَةٌ وَسَّ

بجائی ترا پس بدرستی کہ من بر فضل ترا کہ بر من است ستائش کنان ام و مرتزاجان من سپاس گواست و

بِحَقِّكَ شَاهِدَةٌ ۝ فَإِنَّكَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَ

بحق تو گواہ است پس بدرستی کہ تو در آن فعال هستی پیش از ہر زندہ و

حَيٌّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ وَ حَيٌّ بَعْدَ كُلِّ مَيِّتٍ وَ حَيٌّ

زندہ قائم و موجود هستی پس ہر موجودے و زندہ هستی بعد ہر مردہ و زندہ هستی کہ حامل نہ کردہ

لے و بہ راستی و درستی تو گواہ است (از خرز الامانی) یعنی مشاہدہ می کند نفس من راستی و

درستی ترا - ۱۲ لے بعض بزرگوں نزدیک "فإنك حي" سے من حی میں ہم اعظم ہے

لَوْنَتِ الْحَيَاةِ مِنْ حَيٍّ وَلَمْ تَقْطَعْ خَيْرَكَ عَنِّي

جیاتِ خود را از کسی ہم چو ممکنات کہ حاصل کند از تو و نہ بریدی تو نبی و بہتری

فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَمْ تُنْزِلْ بِي عُقُوبَاتِ النَّقْمِ

خودت را از من در ہر سچ ہنگامے و نہ فرود فرستادے تو بر من تہکبہ ہائے و عذاب ہائے کہنہ ہا و مکافا ہا

وَلَمْ تَمْنَعْ عَنِّي دَقَائِقَ الْعِصْمِ وَلَمْ تُغَيِّرْ عَلَيَّ

و در بے نہ داشتی از من باریکی ہائے عصمت ہا را و نہ برگردانیدی تو بر من

وَتَأْتِ النَّعْمِ ۝ فَلَوْلَمْ أَذْكَرْ مِنْ إِحْسَانِكَ

عہد ہائے استوار نعمت ہارا پس اگر نہ یاد کنم من چیزے را از نوازش ہائے تو

إِلَّا عَفْوَكَ عَنِّي وَالتَّوْفِيقَ لِي وَالْإِسْتِجَابَةَ

مگر در گذشتن تو انکناہان من و مگر دستباری تو مرا و مگر پذیرفتن و پاسخ دادن مرا

لِي عَالِي حِينَ رَفَعْتُ صَوْتِي يَا اللَّهُ بِتَوْجِيدِكَ

دُعائے مرا وقتے کہ برداشتم و بلند کردم آواز خود را اے خدا بحق پرستید بحق یگانگی

وَتَسْجُدِكَ وَتَحْمِيدِكَ وَالْإِيفَاءَ لِي بِرِجَالِي

و بزرگی و ستودگی خودت و مگر احسان ترا در دست کردن تو آفرینش مرا

حِينَ صَوَّرْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صُورَتِي وَالْإِيفَاءَ

وقتے کہ صورت بخشیدی مرا پس نیکو ساختی تو پیکر مرا و مگر احسان تو در

لِي دُونَ عَيْنَيْكَ كَمَا فِي حُرُوفِ مَقْطَعَاتِ بِلِسَانِ قَلْبٍ بَطْرَحِيَّةٍ :- الع- المص-

الر- المر- طه- طس- طسم- ص- حم-

ۛ بلند آواز سے ایک سو مرتبہ "یا اللہ" کہیے۔

فِئْمَةِ الرِّزَاقِ حِينَ قَدَّرْتَهُ لِي لَكَانَ فِي

بخش کردن روزی یا وقتی که اندازه کردی تو آنها برائے من ہر آئینہ باشند پس

ذَلِكَ مَا يَشْغُلُ شُكْرِي عَنْ جَهْدِي فَكَيْفَ

ہم یاد کردن من حالتی کہ باز دارد سپاس مرا از کوشش من پس چگونه

إِذَا فَكَّرْتُ فِي النِّعَمِ الْعِظَامِ الَّتِي أَتَقَلَّبُ فِيهَا

تو غم گذارم حق سپاس و تینکہ اندیشہ خود را بحوالاں دہم در نعمت ہائے بزرگ کہ می غلطم و از پہلو بہ پہلو

وَلَا أَبْلُغُ شُكْرَ شَيْءٍ مِنْهَا ۝ فَكَالْحَمْدِ عَدَدَ

می روم در آنها و نہ رسم باد صف سعی بلیغ بحق سپاس یکے از آنها پس مرترا است ہمہ شائش ہا کہ مقدار

مَا حَفِظَهُ عِلْمُكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ

شمار چیزے کہ فرا گرفته اور دانش بے نہایت تو و مقدار شمار چیزے کہ گنجائش کنڈاں اجتنائش

وَعَدَدَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ وَأَضْعَافَ

تو و مقدار شمارے چیزے کہ در گرفته است ہاں توانائی تو و چند گونه آن شائش

مَا اسْتَوْجِبُهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ ۝ اللَّهُمَّ

کہ سزاوارانی تو آن را از ہمہ آفرینش خویش خدا و ندا

یہ یہاں پڑھیے:۔۔ الٰہی بحق سِرِّہِذِہِ الْاَسْرَارِ وَبِحَقِّ کَرَمِکَ الْخَفِیِّ وَبِحَقِّ اِسْمِکَ الْاَعْظَمِ

اَسْئَلُکَ اَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِی کُلَّهَا اَنْ تُوَصِّلَنِی اِلٰی مَرَادِیْ وَتَرْفَعَنَّ عَنِّی سُرَّ جَمِیْعِ

خَلْقِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝ یَا مَنْ اِنَّمَا اَمْرُہٗ اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ یَقُولَ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ ۝

فَسُبْحَانَ الَّذِیْ بَیْدَہٗ مَلٰکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ ۝ وَاللّٰہُ تَرْجَعُوْنَ ۝ یَا وَهَّابُ تَوْهَّبْتُ بِالْوَهِّبِ

دَالْوَهْبِ فِیْ وَهْبٍ وَهْبِکَ یَا وَهَّابُ ۝ یَا اَنْ تَرَزَقْتَ بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقُ فِی

رِزْقِ رِزْقِکَ یَا رِزَّاقُ۔۔

فَتِمِّمِ احْسَانَكَ عَلَيَّ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي

پس بہ کمال رسماں نیکوئی کر دین خود پر من در آنچه باقی مانده است از عمر من

كَمَا احْسَنْتَ اِلَيَّ فِيمَا مَضَى مِنْهُ ۝ اَللّٰهُمَّ

چنان کہ نیکوئی کردی بسوئے من در آنچه گذشت از دے خداوند ابد رستبیکہ

اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَتُوَسَّلُ اِلَيْكَ بِتَوْجِيْدِكَ

من می خواهم از تو و وسیلہ می گیرم بسوئے تو بہ برکت اعتقاد و حدایت تو

وَتَتَّجِدُ بِكَ وَ تَهْتَلِيْ بِكَ وَ كِبْرِيَا بِكَ وَ كَمَالِكَ

و بہ ذکر بزرگئی تو و بہ ذکر کردن تو بہ کلمہ لا الہ الا اللہ و بہ ذکر بزرگئی ذات تو و کمال صفا تو

وَ تَكْبِيْرِكَ وَ تَعْظِيْمِكَ وَ نُوْرِكَ وَ رَافِعِكَ وَ

و بزرگئی یاد تو و بزرگ اعتقاد تو (بوسیلہ ذکر تو بہ بزرگی) و بہ وسیلہ روشنی ہدایت تو و مہربانی تو کہ از

رَحْمَتِكَ وَ عُلُوِّكَ وَ وَقَارِكَ وَ مَنِّكَ وَ عِلْمِكَ

ازل است و رحمت تو کہ تا ابد است و بزرگئی تو و گراں مائیگی تو و منت نهادن تو و علم تو

وَ حِلْمِكَ وَ بَهَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ جَمَالِكَ وَ

و حلم تو و خوبی تو و بہ وسیلہ صفات قریبہ تو و صفات لطیفہ رحمانیہ تو و

سُلْطَانِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ

بوسیلہ صفات پادشاہی تو و بزرگی تو و قوت تو و توانائی تو

و بہ نور تو کہ ذات حبیب تست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (از خرز الامانی شرح

خرز الیمانی للمحافظ العلامہ محمد سلیم الدین تسلیم مرحوم و مغفور ص ۲۵)

وَإِحْسَانِكَ وَإِمْتِنَانِكَ وَرَحْمَتِكَ وَنَبِيِّكَ وَعِزَّتِهِ

و نیکی کردن تو و بوسیله منت نهادن تو و بوسیله مهربانی محبت تو و پیغمبر تو که محمد است بوسیله

لَطَاهِرِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فرزندان او که پاکان پاکیزگان اند پس که فرود آری رحمت خاصه بر سردار و مہتر ما کہ نام پاک وے محمد است

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

و بر جمیع آل سردار و مہتر ما محمد و بر تمامی باقی برادران وے از انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ ط وَأَنْ لَا تُخَرِّمَنِي رِفْدَكَ وَفَضْلَكَ

و رسولان و این کہ نہ محروم داری مرا از بخشش صله خودت و افزودنی بخشش

وَجَمَالَكَ وَجَلَالَكَ وَفَوَائِدَكَ كَرَامَتِكَ فَإِنَّهُ لَا

خودت را و خوبی خودت را و بزرگی خودت را و فائده ہائے نوازش خودت را پس بپا کہ تحقیق

يَعْتَرِيكَ لِكثْرَةِ مَا قَدْ نَشَرْتَ بِهِ مِنَ الْعَطَايَا

شان این است کہ نہ در پیش می آید ترا بر بہت بسیاری چیزے کہ تحقیق پراگندہ کردی تو دے از دہش ہا و

عَوَائِقِ الْبُخْلِ وَلَا يَنْقُصُ جُودَكَ التَّقْصِيرُ

بخشش ہا موانع زفتی و مسکی و نہ کم می سازد بخشش ترا کوتاہی بندگان

فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ وَلَا تَنْفَدُ خَزَائِنُكَ مَوَاهِبُكَ

در سپاس کردن ناز و آسائش تو نیست نمی گرداند گنجینہ ہائے ترا بخشش ہائے تو

الْمُنْتَسِعَةُ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي جُودِكَ الْعَظِيمُ

کہ فراخ است و اثر نمی کند در بخشش تو کہ بزرگ است

ایہا و تو میوں کے میان لسان قلب حروف مقطعات پڑھیے کہ بعض یس جمعسق - ق - ن

مَنَّاكَ الْفَرِيقَةَ الْجَمِيلَةَ الْجَمِيلَةَ وَلَا تَخَفْ صِيَمَ

دیش و بخشش ہائے تو کہ افزوں شوند خوب و نیکو و بزرگ است و نہ می ترسی تو ستم

إِمْلَاقٍ فَتُكْرِمُنِي وَلَا يَكْفُكُ خَوْفٌ عَدَمٍ فَيَنْقُصُ

در دینی و نیستی را تا قطع کنی عطا او نہ لاحق شود ترا بیم نیستی تا کم کند

مِنْ جُودِكَ فَيُضِلُّ فَضْلَكَ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا

از بخشش تو در اصل باران فضل تو بخایا روزی کن مرا دلے

مُتَمَلِّئًا خَاصَةً وَأَصْرًا عَامًّا وَبَدَنًا صَابِرًا وَيَقِينًا

تو سال فروتنی کننده زاری کننده و تنے شکبا و اعتقاد جازم

صَادِقًا وَإِسْنَادًا كَرِيمًا وَحَامِدًا أَوْ رِزْقًا وَاسِعًا وَ

است مطابق واقع و زبانی و کور گو یاں و پساس و ستائش گو یاں و روزی فراخ کشتاش دارد

عِلْمًا نَافِعًا وَإِيمَانًا صَحِيحًا وَأَمْرًا مَوْصِيئًا

داناتی و دلائل نمودند ایمان صحیح و زوجه مومنہ

وَوَلَدًا صَالِحًا وَسِنًّا طَوِيلًا وَعَيْنًا بَالِيَةً فِي

و فرزند نیکو کار و عمر دراز و چشمی گریبان در

شَوْفِكَ وَتُوبَةٍ مَقْبُولَةٍ وَعَمَلًا صَالِحًا وَ

شوقی تو و توبہ قبول کرده شده و کردار نیک و

سُئِكَ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تُؤْمِنِي مَكْرًا

طلب می کنم من ترا روزی مباح لذیذ پاک و بے باک مگرداں مرا فریفتن خودت را

لَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَكْتِفْ عَنِّي بِسُؤْرِكَ وَلَا

و فراموش کننده مساز مرا یاد خودت را و وابراز من پیشش خودت را و نه

تَقْطِطِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَلَا تَبْعِدْنِي مِنْ كُنُفِكَ

نا امید ساز مرا از مهربانی خودت و نه دور گردان مرا از پناه خودت

وَجَوَارِكَ وَأَعِدْنِي مِنْ سَخَطِكَ وَعَضْبِكَ

و از نزدیکی خودت و پناه ده مرا از ناخوشنودمی خودت و از عظم

وَلَا تُؤَسِّنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ ذِكْرِي

و نه نا امید گردانی مرا از مهربانی خودت و آسائش و روح خودت را در

أَيْسَاءٍ مِنْ كُلِّ رَوْعَةٍ وَوَحْشَةٍ وَأَعْمَسَةٍ

مرا رفیق بهم از هر بیم که نزع است) و اندوه دانی که غم می آید

مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ وَنَجْتِي مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ

از هر تلف و هلاکی و نجات ده مرا از هر بلای و سختی

أَفَةٍ وَعَاهَةٍ وَعُصْبَةٍ وَعِجْنَةٍ

آسیب زحمت و آفت و هر اندوه گلگیر و هر سنج دست

وَضَلَالَةٍ وَغَارَةٍ وَسِدِّهِ بِي السَّيْرِ

اندره و گمراهی و هر تاخت تاراج و هر سختی و دشواری در هر دور

لِجِهَانٍ يُعَاظِرُهُ بِرَالِهِي بِحَقِّ سِرِّهِ هَذِهِ الْأَسْرَارُ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْغَنِيِّ بِحَقِّ إِسْمِكَ الْأَعْظَمِ

أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي كُلَّهَا وَأَنْ تُؤَيِّدَنِي إِلَى مُرَادِي (باقی بر صفحه آینده)

اللَّهُمَّ ارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَاذْفَعْ عَنِّي وَ

خدایا بلند گرداں پایہ مرا و از پایہ مینگن مرا و دور کن بدی ہارا از من و دور

لَا تَذْفَعْنِي وَأَعْطِنِي وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَكْرِمْنِي وَ

مکن مرا از قرب و وصال خودت و بہ بخشش مرا و نا امید مساز مرا و بزرگی بخشش مرا و

لَا تُهِنِّي وَزِدْنِي وَلَا تَنْقُصْنِي وَأَرْحَمْنِي وَ

خوار مکن مرا و بیفزائی مرا افزونی ہا و کم مکن مرا و مہربانی کن مرا و

لَا تُعَذِّبْنِي وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَخْذُلْنِي وَأَسْتُرْنِي وَ

میازار مرا و یاوری دہ مرا و نہ ضائع گذار مرا و بہ پوشش عیب مرا و

لَا تَقْضِ حَنِيَّ وَأَثِرْنِي وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيَّ أَحَدًا فِي

رُسْوَا مَكُنْ مَرَا وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحْفَظْنِي وَلَا تُضَيِّعْنِي

کارِ ایں جہان و آں جہان و نگہدار مرا و ضائع مکن مرا یعنی بے تیمار نگذار مرا

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

رَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى وَ بَرِّكُنِي مَرَا بِرَبِّهِ كَسَى

فَانَّاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَّ بِالْاِجَابَةِ

پس بدرستیکہ تو بر ہر چیز توانا تری و بہ پذیرفتن

جَدِيرٌ ۞ وَصَلَّىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سزاواری و درود فرستد اللہ بر سردارِ ما محمد

وَاللّٰهُ اَجْمَعِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي

و بر آل وے تمامی خدایا چیزے کہ اندازہ کردہ تو مرا

مِنْ اَمْرٍ وَّ شَرَعْتَ فِيهِ بِتَوْفِيْقِكَ وَ تَسِيْرِكَ

از کار نیک و آغاز کردم من در آل کار بیاوری تو و بہ آسان گردانیدن تو

فَتَسِيْرِي بِاِحْسَنِ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا وَاَصْلِحْهَا

پس تمام گرداں آل کار برابرے من بہ نیکوترین وجہ ہا تمامی آنها و نیکوترین آنها

وَاَصْوَبِهَا ط فَاِنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيْرٌ وَّ بِالْاِجَابَةِ

و درست ترین آنها پس بدرستیکہ تو بر ہرچہ خواہی توانا هستی و بہ پذیرفتن

جَدِيْرٌ ۞ يٰۤاَمِنْ قَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَاَلْاَرْضُونَ

سزاوارہستی اے آل کہ قائم است آسمان ہا و زمین ہا

لے یہاں پر دو نومیموں کے درمیان بہ لسانِ قلب یہ حروفِ مقطعات پڑھیے: کہ یعیص

یس - حمعسق - ق - ن

لے یہاں قرآ کا اشارہ ہے۔ بوقت حاجت تین مرتبہ پڑھیے۔ یَا قَهَّارُ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ

وَالْقَهْرُ فِي قَهْرِ قَهْرِكَ يَا قَهَّارُ۔

* یہاں سجدہ کیجئے اور پہلے سجدوں والی کوئی سی ڈعا پڑھیے یا کوئی اور دعا کیجئے۔

شمارہ چہارم

شمارہ چہارم

بِأَمْرِهِ يَأْمَنُ بِسِسْكَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ لَه عَلَى

بہ حکم دے اے کہ کسی کہ بازداشتہ است آسمان را ایس کہ بہ افتد

الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَا مَنْ إِتْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

زمین کمر بہ فرمان خودش اے کہ کسی کہ بجز ایس نیست کہ فرمان او هست فقط

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي

چیز اند چیزے را ایس کہ بگوید مرا اورا "شو" پس می شود پس چہا پاکیزہ است آن ذات کہ

بِيَدِهِ مَكْرُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَ

در اختیار است اصل وجود ہر شے و بسوئے ہے آگشتہ می شوید

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ

وردہ فرستد اللہ تعالیٰ بر بہترین آفرینش سے سرورد و مہربان نبی ما کرنام پاک و محمد است و

رَبِّ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

پر آل سے کہ پاکوں و پاکیزگان اند و سلام فرستد خدا سلام فرستادوں

مُبَارَكًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

بسیار بابرکت بسیار بسیار و تمامی حمد است مر برائے خدا کہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تَمَّتْ | پروردگار مجملہ عوام است | الْحَرْزُ الْيَمَانِيُّ

لہ ان دونوں "عینوں" کے درمیان یہ لسان قلب یہ حروف مقطعات پڑھیے :- المر۔ المص۔ الرا۔

المرا۔ طہ۔ طس۔ طسم۔ ص۔ حو

۱۰ حضرت مولانا حافظ محمد سلیم الدین صاحب تسلیم بدیونی تم جے پوری نے اپنے رسالہ (باقی صفحہ آئندہ)

دُعَاۃُ حِرِّ اَمِيرِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

می خواهم من بنام خدائے بخشنایندہ مہربان

اللّٰهُمَّ اِنَّكَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ وَخَالِقٌ لَا تُخْلَقُ وَ

خدا یا پرستیگہ تو زندہ هستی کہ نہ می میری و زنده آفریننده هستی کہ نہ آفریده شوی و

سَمِيعٌ لَا تُشْكُ وَبَصِيْرٌ لَا تُغَابُ وَشَهِيدٌ

شنوائے هستی کہ نہ بشک افتاده می شوی و بینائے هستی کہ نہ درنا پدیدگی افتاده شوی حاضر هستی کہ

بقیہ صفحہ گذشتہ "خرز الامانی" علی الحرز الیمانی میں اس آیہ کریمہ کی شرح میں یوں لکھا ہے :-

"و از ازل تا ابد بے حد و عدد ہمہ ستائش ہائے قوی و فعلی و قلبی و حضوری و ظہوری و شہودی و

بودی و اضطراری و اختیاری و زمانی و ہنگامی و از ہر زبان و ہر جہت ہوائے ہوا یا یہ کہ مبلغ غایتش نماند

مگر ذات محمود بے آل کہ گویندہ گوید ثابت و لازم است بربوبت قدیم ازلی مرآں ذات مقدس را

کہ نسبت تفاحیل بے حد و حساب کمالات او و کسب گنجینہ صفات لے نہایات او علم خاص است اللہ

عز و جلال و کبریا و عظم است این من والہ کہ اسم اعظم است این

و بیل بربوبت و لزوم این ہمہ ستائش یا استحقاق اوست مرا این ہمہ را چہ وے آفرینندہ

پرورندہ و نگہدارندہ و بے مبلغ کمال مقدر رسانندہ ہمہ ما سوا است جل شانہ و علم برہانہ

ع خداوند چنین وارد شود و لے اور اجزا و آثار دستور

ختم کلام است بر فاتحہ کتاب مجید

فاتحہ شکر و ختم سخن

نام خداست برو ختم کن

و اقتباس و امتثال بآیہ ہدایت کلید و اخیر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۝

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

ذُرِّيَّاتِهِ اَجْمَعِيْنَ - (رسالہ مذکور ص ۴۹-۵۰)

ن تفقد

لَتَغِيبُ وَلَا تَرْتَابُ وَأَبْدِي لَا تَفْقَدُ وَصَادِقُ

نه غائب می شوی و نه به شک آورده شوی و پاینده هستی که نه کم شوی و راست گویی هستی

لَا تَكْذِبُ وَقَاهِرٌ لَا تَقْهَرُ وَقَرِيبٌ لَا تَبْعُدُ وَ

که نه دروغ می گویی و چیره هستی که نه کسی بر تو چیره شود و نزدیک هستی که نه دور شوی و

قَادِرٌ لَا تَضَارُّ وَغَافِرٌ لَا تَطْلِمُ وَصَمَدٌ لَا تَطْعَمُ وَ

توانا هستی که نه زیان ده شوی و آمرزگار هستی که نه ستم می کنی تو و بے نیازه هستی که نه می خوری تو

وَيَوْمٌ لَا تَنَامُ وَجَبِيبٌ لَا تَسَامُ وَجَبَّارٌ لَا تَكْلَمُ وَ

و پابنده هستی که نه می خوابی و پاسخ دهنده هستی که نه به تنگ می آئی و شکننده کاما هستی که نه سخن

وَعَلِيمٌ لَا تَرَامُ وَعَالِمٌ لَا تَعْلَمُ وَقَوِيٌّ

گفته شوی (یعنی کسی را مجال سخن در تو نیست) و دانای هستی که نه جسته شوی و دانای هستی که نه آگاه گردانیده شوی استوار هستی که نه

لَتَضَعُفٌ وَعَظِيمٌ لَا تُوصَفُ وَوَفِيٌّ لَا تُخْلَفُ

سست می شوی و بزرگ هستی که نه صفت کرده می شوی و وفا کننده هستی که نه خلاف عهد می کنی

وَعَدْلٌ لَا تُحِيفُ وَغَنِيٌّ لَا تَقْتَرُ وَكَبِيرٌ

بمنصف هستی که نه ستم و جور می کنی و بے نیاز هستی که نه محتاج می شوی و بزرگ هستی که نه

لَتَعْدُرُ وَحَكِيمٌ لَا تَجُورُ وَمَدِيحٌ لَا تَقْهَرُ وَمَعْرُوفٌ

بے وفای می کنی و حکم کننده هستی که نه جور می کنی و ارجمند هستی که نه غلبه کرده می شوی و مشهور هستی

لَا تُنْكَرُ وَوَكِيلٌ لَا تُخْفِرُ وَغَالِبٌ لَا تَغْلَبُ وَوَسِيٌّ

که نه بر انکار آورده شوی و سپرده شد کارهای هستی که نه عهد شکنی می کنی و غلبه کننده هستی که نه مغلوب شوی و بے محنتی هستی که

۱۰۰

لَا تَسْتَأْمِرُ وَفَرْدٌ لَّا تَسْتَشِيرُ وَهَابٌ لَّا تَمَلُّ

نه مشاورت می خواهی و تنها هستی که نه طلب مشاورت می کنی و بسیار بختی هستی که نه به ستوه می آیی

وَسَرِيعٌ لَّا تَذُ هَلٌ وَحَلِيمٌ لَّا تَعْجَلُ وَجَوَادٌ

و شتاب کار هستی که نه غافل می شوی و بردبار هستی که نه شتاب می کنی و بخشش کننده هستی که نه

لَا تَبْخُلُ وَحَافِظٌ لَّا تَعْضَلُ وَعَزِيزٌ لَّا تُذَلُّ وَ

بخشش نمی کنی و نگهدارنده هستی که نه غفلت می کنی و ارجمند هستی که نه خوار کرده می شوی و

قَائِمٌ لَّا تَنَامُ وَمُحْتَجِبٌ لَّا تُرَى وَدَائِمٌ لَّا تَقْنِي

استاده بر پائے هستی که نه می خوابی و پوشیده هستی که نه دیده شوی و پائنده هستی که نه نیست می شوی

وَبَاقٍ لَّا تُبَدِّلُ وَوَاحِدٌ لَّا تُشْبِهُهُ وَمُقْتَدِرٌ

و باقی مانده هستی که نه گفته می شوی و یکتا هستی که نه تشبیه داده می شوی و بسیار توانا هستی که نه

لَا تُنَازِعُ ۝ يَا كَرِيمُ الْجَوَادُ الْمُكْرَمُ ط يَا قَرِيبُ

نزاع کرده می شوی اے بخشنده بسیار بخش گرامی کرده شده اے نزدیک

الْمُجِيبُ الْمُتَعَالَى يَا جَلِيلُ الْمُتَجَلَّلُ الْمُجِيبُ

پاسخ دهنده بسیار برتر اے بزرگ بزرگی نماینده آرائش و خوبی نماینده

يَا سَلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُهِمِّنِ ط يَا عَزِيزُ الْجَبَّارِ

اے بے باک گرداننده پناه دهنده نگهبان و گواه راست اے ارجمند

الْمُتَكَبِّرِ الْمُتَجَبَّرِ ط يَا طَاهِرُ الطَّهَوْرِ الْمُطَهَّرِ

تکبر نماینده بزرگی نماینده اے پاک پاک کننده پاک پذیرنده

و متعالی

و پاکیزه

يَا قَاهِرُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا عَزِيزُ الْمَعِزِّ الْمُسْتَعِزِّ

اے پھیرہ توانا بسیار توانا اے ارجمند ارجمندی دہندہ ارجمندی پذیر

يَا مَنْ يُنَادِي مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ بِالسِّنَةِ شَيْءٍ

اے کسے کہ ندا کردہ می شود از ہر راہ فراخ دور و دراز بہ زبان ہائے پراکنده

وَلِغَايَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَحَوَائِجٍ أُخْرٍ يَا مَنْ

یعنی بسیار و متعدد و بہ لغت ہائے گوناگون بہ حاجت ہائے دیگر یعنی نوع بہ نوع اے کسے کہ نہ

لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنِ شَأْنٍ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ

مشغول می سازد اور کالے از کارے دیگر اے کسے کہ نہ مشغول می سازد اور چیزے

عَنْ شَيْءٍ ۝ أَنْتَ الَّذِي لَا تُغَيِّرُكَ الْأَزْمِنَةُ

از چیزے دیگر تویی آن کہ نہ متغیر می سازد ترا زمانہ ہا

وَلَا تُحِيطُ بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَلَا تُصِفُكَ الْأُسْنَةُ

و نہ در می گیرد بہ تو مکان ہا و نہ بیان می کند ترا زبان ہا

وَلَا يَأْخُذُكَ نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ وَلَا يَشْبَهُكَ شَيْءٌ

و نہ می گیرد ترا خواب و نہ غنودگی و نہ مشابہت می دارد ترا چیزے

وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَأَنْتَ خَالِقُ كُلِّ

و چگونه نہ باشد ایں چنین و حال آنست کہ تویی آفریننده ہر

شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ الْكَرِيمَ

چیز و ہر چیز ہلاک شونده است مگر تویی تو یعنی ذات تو کہ بزرگ و بخشنده است

سُبُوْحُ ذِكْرِكَ وَقَدْ وَسَّ أَمْرَكَ وَوَاحِدٌ حَقِّكَ

یا کبیرہ است یاد کردن تو و بسیار پاک و مبارک است فرمان تو و یگانه است حق تو

وَنَافِذُ قَضَائِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و روان است حکم تو و درود بفرست بر مہتر ما حضرت محمد و

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَيِّرْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا

بر پیروان و آل مہتر ما حضرت محمد و آسان گرداں برائے من از کار خودم چیزے کہ

أَرْجُو مِنْكَ وَأَصْرِفْ عَنِّي مَا أَخَافُ عِنْدَهُ

امید دارم من از تو و بہ گرداں از من چیزے کہ می ترسم من از دے

وَبَيِّرْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ عُسْرَتَهُ وَ

و آسان گرداں برائے من کار منم چیزے را کہ می ترسم من دشواری آن را و

فَرِّجْ عَنِّي مَا أَخَافُ ضَيْقَتَهُ وَسَهِّلْ لِي مَا

دور کن از من چیزے را کہ می ترسم من تنگی و بد حالے آن را و آسان گرداں برائے من

أَخَافُ حَزُونَتَهُ ۝ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

چیزے را کہ می ترسم من سختی و درشتی آن را بہ پاکی یاد می کنم بہ پاکی یاد کردن ترا خدا یا و یاد می کنم ترا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

بہ سپاس و ستائش تو نیست هیچ معبود بحق مگر تو بہ پاکی یاد می کنم بہ پاکی یاد کردن ترا بہرستگاری من مستم از جلم کنندگان

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

بہ پاکی یاد می کنم بہ پاکی یاد کردن ترا خدا یا یاد می کنم ترا بہ سپاس و ستائش تو نیست هیچ معبود بحق مگر توئی

الْحَتَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا بَدِيحُ

بسیار بخشاینده و مهربان بسیار انعام کننده خداوند بزرگی و گرامی داشتن اے نوپیدا کننده

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ

آسمان ها و زمین خدایا بدرستی که سوال می کنم ترا و

لَأَسْأَلَ غَيْرَكَ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلَا أَرْغَبُ

در سوال می کنم از غیر تو و رغبت می کنم بسوئے تو و نه رغبت می کنم

إِلَى غَيْرِكَ وَأَسْأَلُكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ وَجَارَ

بسوئے غیر تو و سوال می کنم ترا اے پناه ترسندگان و اے پناه دهنده

الْمُسْتَجِيرِينَ ط أَنْتَ الْفَتْاحُ إِلَى الْخَيْرَاتِ

پناه خواهاں توئی بسیار کشاینده بسوئے بهتری ها

وَمُقِيلُ الْعَثْرَاتِ مَا حَى السَّيِّئَاتِ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ

درگذرنده لغزیدگی و بهسرافتادگی ها اے محو سازنده بدی ها نویسنده نیکوئی ها

رَافِعُ الدَّرَجَاتِ مَانِعُ الْبَلِيَّاتِ ۝ وَأَسْأَلُكَ

برتر کننده پائگاه ها را بازدارنده بلاها را و سوال می کنم من ترا

بِأَفْضَلِ الْمَسْئَلَةِ كُلِّهَا وَأَعْظَمِهَا وَأَنْجِحْهَا

در بهترین درخواست کردنی تمامی آنها و بزرگ ترین آنها و خوب آورده شوند آنها

الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُواكَ إِلَّا بِهَا

آن که نه می سزد مر بندگان را این که سوال کنند ترا مگر به آن



اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ

اے خدا اے خدا اے خدا اے بخشنندہ اے بخشنائندہ

رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ

اے بخشنائندہ اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان

سَمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا وَبِصِفَاتِكَ الْعُلَى وَبِنِعْمَتِكَ

نام ہائے تو کہ نیکوتر و خوب تر است تمامی آنها و بہ صفت ہائے تو کہ برتر است و بہ نعمت ہائے

بِقِي لَاتُخْصِي وَيَا كَرِيمَ اسْمَائِكَ عَلَيْكَ

آن کہ نہ شمارده شود و بہ گرامی ترین نام ہائے تو بر تو

أَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنَزِلَةٌ وَ

محبوب ترین آنها بسوئے تو و بزرگ ترین آنها نزد تو از روئے پانگاہ و

حَزَلِهَا مِنْكَ تَوَّابًا وَأَسْرِعِهَا مِنْكَ جَابِلًا

ہ ترین آنها از تو از روئے مُزد و شتابندہ ترین آنها از تو از روئے قبولیت

بِاسْمَائِكَ الْمَكُونَةِ الْمَخْرُودَةِ الْجَلِيلَةِ

بہ نام ہائے تو پوشیدہ داشته شدہ در خزانہ نہادہ شدہ بزرگ

جَبَلٍ الْعَظِيمَةِ الْأَعْظَمِ الَّتِي حَبَّهَا وَ

بزرگ تر بزرگ بزرگ تر آن کہ دوست داری تو آنها را و

رَضِي عَمَّنْ دَعَاكَ بِهَا وَتُسْتَجِيبُ لَهُ

منوود شوی تو از کسے کہ خواند ترا باں ہا و قبول کنی تو برائے او

دُعَاؤُهُ وَحَقًّا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَحْرِمَ سَائِلَكَ

دُعائے او را و حالیکہ ثابت است ثابت شدن بر تو ایس کہ نہ محروم سازی تو سوال کنندہ خود

الْجَابَةِ ۝ وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا

را قبولیت و بہ ہر نامے کہ آں مرترا است آموختہ تو آں را پہنچیکے را

مِنْ خَلْقِكَ وَبِكُلِّ اسْمٍ لَمْ تُعَلِّمْهُ أَحَدًا مِّنْ

از آفرینش خودت و بہ ہر نامے کہ نیا موختہ تو آں را پہنچیکے را از

خَلْقِكَ وَبِكُلِّ اسْمٍ دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةٌ أَوْ عَرْشٌ

آفرینش خودت و بہ ہر نامے کہ خواندہ است ترا باں نام بردارندگان عرش تو

وَمَا رَأَيْتُكَ وَأَصْفِيَاءُكَ وَأَنْبِيَاءُكَ مِنْ

و فرشتگان تو و برگزیدگان تو و پیغمبران تو از

جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَ

تمامی آفرینش تو و بحرمت سوال کنندگان بر تو و

الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ إِلَيْكَ وَ

میل دارندگان بسوئے تو و آمرزش خواہندگان بسوئے تو و

الْمُتَعَوِّذِينَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِينَ إِلَيْكَ وَبِحَقِّ

پناہ جویندگان بہ تو و تضرع وزاری کنندگان بسوئے تو و بحرمت

كُلِّ عَبْدٍ مُّضَرَّعٍ مُّتَعَبِّدٍ لَّكَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ

ہر بندہ تضرع وزاری کنندہ و پرستش کنندہ مرترا در خشکی یا تری یا دشت

أَوْجِبِلْ ۝ وَأَدْعُوا إِلَيْكَ دُعَاءَ مَنْ اشْتَدَّتْ

یا در کوہ و دعائی کہم من بسوئے تو دُعا کردن کسی کہ سخت شدہ است

فَاقْتَهُ ۝ وَعَظَمَ جُرْمَهُ ۝ وَأَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَكَةِ

فاقہ او و بزرگ شدہ است گناہ او و خواند و دعوت کرد بر ہلاکی

نَفْسَهُ ۝ وَضَعَفَتْ قُوَّتَهُ ۝ وَقَلَّتْ حِيلَتُهُ ۝ وَمَنْ

جان خودش را وسست شد زور او و کم شد چارہ او و دعائے کسی

لَا يَتَّقُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَلَا يَجِدُ

کہ نہ استواری دارد بہ چیزے از دانش و دانائی خودش و از کردار خودش و نہ

لِفَاقَتِهِ بُدًّا ۝ أَجَابًا ۝ وَالَّذِينَ غَاظُوا عَذْرَابَ

می باید برائے فاقہ خودش چارہ تاوان سازندہ و نہ برائے گناہ خودش آمرزندہ سوائے تو

وَلَا هُمْ يُسْتَعِينُ بِسُؤَالِكَ ۝ وَهَرَبْتُ إِلَيْكَ ضَعُوفًا

و نہ فریاد خواہندہ برائے او جز تو و گریختم من بسوئے تو بحالت ناتوانی سخت

مُعْتَرِفًا ۝ غَيْرَ مُسْتَنْبِحٍ ۝ وَلَا مُتَكَبِّرًا ۝ عَلَى

حالیکہ اقرار کنندہ ام بہ گناہ خود غیر تنگ دارندہ و نہ گردن کشی کنندہ بر

عِبَادَتِكَ ۝ أَدْعُو دُعَاءَ عَبْدٍ بَائِسٍ ۝ فَقِيرًا

پرستش تو دُعا می کہم دُعا کردن بندہ حالیکہ او ترس ناک و فقیر

مُسْتَجِيرًا إِلَيْكَ ۝ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ

و پناہ خواہندہ است بسوئے تو و سوال می کہم من ترا بہ سبب اینکه بدستیکہ تو تویی خدا

لہ درویشی و نیاز (مشتی الارب)

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمُنَّانُ بَدِيعُ

آن که نیست هیچ معبود بحق مگر تو بسیار بخشناینده و مهربان بسیار منت نهنده و انعام کننده

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

تو پیدا کننده آسمان ها و زمین خداوند بزرگی و گرامی کردن

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

داننده پنهان و آشکارا بخشناینده مهربان

إِلَهِي أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ وَأَنْتَ الْمَالِكُ

ای خدای من توئی مالک و منم بنده و توئی پادشاه

وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَأَنْتَ الْحَيُّ وَأَنَا الْمَيِّتُ

و منم در تحت ملکیت آورده شده و توئی زنده و منم مرده

أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا

توئی ارجمند و منم خوار و توئی بے نیاز و منم

الْفَقِيرُ وَأَنْتَ الْبَارِقُ وَأَنَا الْفَانِي وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ

محتاج و تهی دست و توئی پاینده و منم نیست شونده و توئی نیکنوی کننده

وَأَنَا الْمُسِيءُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمَذْنُوبُ

و منم بدکار و توئی آمرزگار و منم گنهگار

وَأَنْتَ الْكَرِيمُ وَأَنَا الْجَانِي وَأَنْتَ الرَّحِيمُ

و توئی بخشنده و درگذرنده از گناه و منم خائنت کننده یعنی گنهگار و توئی مهربان

أَنَا الْخَاطِئُ وَأَنْتَ الْقَادِرُ وَأَنَا الْمُقَدَّرُ وَرُو

منم ناراست کار و تونی توانا و منم عاجز و

أَنْتَ الْبَاعِثُ وَأَنَا الْمَبْعُوثُ وَأَنْتَ الْحَيُّ

تونی برانگیزنده و منم برانگیخته شده و تونی زنده

الَّذِي لَا تَمُوتُ وَأَنَا عَبْدُكَ سَوْفَ أَمُوتُ

آن که نه خواهی مردن و منم بنده تو عنقریب خواهم مردن

وَأَنْتَ الْخَلَّاقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ

و تونی بسیار آفریننده و منم آفریده شده و تونی استوار و زور آور

وَأَنَا الضَّعِيفُ وَأَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ

و منم کمزور و ناتوان و تونی عطا کننده و منم سوال کننده

وَأَنْتَ الرَّزَّاقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَأَنْتَ الْأَمِينُ

و تونی بسیار روزی دهنده و منم روزی داده شده و تونی ایمن و چنده

وَأَنَا الْخَائِفُ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَنْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ

و منم ترس ناک و تونی سزاوارتر از جنسے کسی که بلا کنم بسوئے او

وَأَسْتَعْنُ بِهِ وَسَأَلْتَهُ وَدَعَوْتَهُ وَرَجَوْتَهُ

و طلب مدد کنم باوے و سوال کنم من او را و بخوام او را و آید از من او را

لَأَنَّكَ كَرَمٌ مِّنْ مَّذُنِبٍ قَدْ غَفَرْتَ لَهُ وَكَمٍ مِّنْ

مراحمه جنس کس از جنس گنہگار است که تحقیق آمرزش کرده تو مرا و او جنس کس از جنس



مَسِيٌّ قَدْ تَجَاوَزَتْ عَنْهُ ط فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَتَجَاوَزْ

بدکار است کہ تحقیق در گذشتہ تو از آن پس پیام مرا گناہان من و درگذر کن

عَنِّي ط بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط اللَّهُ أَكْبَرُ

از من بہ مہربانی خودت اے مہربان ترین مہربانان خدا است بزرگ ترین

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط وَاللَّهُ أَكْبَرُ

خدا است بزرگ ترین خدا است بزرگ ترین نیست هیچ معبودے بحق مگر اللہ و خدا بزرگ ترین است

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

ہمہ ستائش ہا مہربانے اللہ است

دُعَاةِ اِخْتِمَامِ حَرَمِ زَيْبَانِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

می خوانم این دعا را بنا م خداے بخشاینده مہربان

سُبْحَانَ اللَّهِ الْقَادِرِ الْقَاهِرِ الْقَوِيِّ الْجَبَّارِ الْحَيِّ

بہ پاکی یاد می کنم بہ پاکی یاد کردن خداے توانا پھیرہ استوار شکنندہ کاہا زندہ

لَقِيَوْمٍ يَدْرَأُ مَعِينٍ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

بائندہ بغیر یاری دہندہ نیست هیچ معبود بحق مگر اللہ محمد

رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا ۝ اللَّهُمَّ تَفْضِلْ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ

رسول خدا است بحق خدایا نیکوئی کن بر من و نیکوئی کن

إِلَىٰ وَكُن لِّي وَلَا تَكُن عَلَيَّ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ

بہ سوئے من و باش برائے سوئے من و مباش بخلاف من خدا یا تحقیق تو خود گفتہ

أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

بخواہید شما مرا قبول می کنم من دعا را برائے شما تحقیق تو نہ خلاف می کنی وعدہ را

اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمِّي وَاسْتَفْ غَمِّي وَأَهْلِكْ عَدُوِّي

خدا یا دور کن اندوہ مرا و دفع کن غمناکی مرا و ہلاک کن دشمن مرا

يَا وَدُودَ ۝ إِلَهِي مَنِ الَّذِي دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ

اے بسیار محبوب معبود اے خدائے من آیا کیست آن کس کہ خواند ترا پس نہ قبول کردی تو

وَمَنِ الَّذِي سَأَلَكَ فَلَمْ تُعْطِهِ وَمَنِ الَّذِي

دُعایے اُورا و آیا کیست آن کس کہ سوال کرد از تو پس نہ عطا کردی تو اُورا و آیا کیست آن کس کہ

اسْتَجَارَكَ فَلَمْ تُجِرْهُ وَمَنِ الَّذِي اسْتَعَانَكَ

امان خواست از تو پس نہ امان دادی تو اُورا و آیا کیست آن کس کہ مدد خواست از تو

فَلَمْ تُعِنْهُ وَمَنِ الَّذِي اسْتَعَاثَ بِكَ فَلَمْ

پس نہ مدد کردی تو اُورا و آیا کیست آن کس کہ فریاد خواست از تو پس نہ بہ فریاد

تُعِثُّهُ وَمَنِ الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَكْفِهِ

رسیدی اُورا و آیا کیست آن کس کہ اعتماد و توکل کرد بر تو پس نہ کافی شدی تو اُورا

وَاعْوَاثًا - فَبِكَ اسْتَعِيْثُ وَافْعَلْ لِي مَا

اے زیاد رسندہ پس بہ تو فریاد می خواهم من و کن بسوئے من آن را

أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَمُسْتَجِبٌ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى

کہ تو برائے آن سزاوار ہستی و حق دار ہستی پس بدرستی کہ تو سزاوار تقویٰ

وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝ وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَاشْفِنِي

و سزاوار بخشش ہستی و قبول کن دعائے مرا و شفا بخش مرا

شِفَاءً عَاجِلًا غَيْرَ رَاجِلٍ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءِ

اں شفا کہ زود آئندہ باشد نہ بدیر آئندہ و سوال می کنم من از تو بوسیلهٔ این دعائے

الْعَظِيمِ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي كُنْ فَيَكُونُ ۝

بزرگ این کہ روا کنی تو حاجت ہائے مرا بحکم "کن فیکون"

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ

پس بہ پیاکی یاد می کنم پیاکی یاد کردن آن ذات را کہ بہ پیدوے است سلطنت ہر چیزے

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ اللَّهُمَّ يَا طَيِّبُ اغْنِنِي وَ

بسوئے دے است بازگشت تمامای اے بارِ خدایا اے مہربان بفریاد من برس و

أَدْرِكْنِي بِطُفِكَ الْخَفِيِّ ۝ إِلَهِي كَفَى عِلْمُكَ

دریاب مرا بہ مہربانیِ خفوت کہ پوشیدہ است اے معبود من بسندہ است دانائی تو

عَنِ الْمُقَالِ وَكَفَى كَرَمُكَ عَنِ السُّؤَالِ يَا إِلَهَ

از گفتن و بسندہ است بخشش تو از خواستن اے معبود

الْعَالَمِينَ وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ بِرَحْمَتِكَ

جُملہ عالمیان و اے بہترین یاری دہندگان بہ رحمت تو

اسْتَعِيْثْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

فریاد می خواهم من اے مهربان ترین جملہ مهربانان اے خدائے من بخش مرا

وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَا وَاَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّبْتَنِيْ

و والدین مرا و آنها را که ولادت دادند ای مهربانان کن برای هر دو چنانکه پرورش

صَغِيْرًا ۝ اللّٰهُمَّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا

دادند مرا از صغیر من اے خدائے من کن بمن و به آنها زود و بدیر

فِي الدِّيْنِ وَالْ دُّنْيَا وَالْ اٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ

در دین و دنیا و آخرت آن که تو برائے آن سزاوار هستی

وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا تَفْعَلُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ

و کن ما اے آقائے ما آن که ما برائے آن سزاوار هستیم بدرستی که تو

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ

بسیار بخشش کننده بردبار هستی سخاوت کننده کرم کننده رحم کننده مهربانی کننده هستی

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَسَلَمَ

و درود فرستد اللہ بر بهترین مخلوقات و بر نام پاک و محمد صلعم است و بر آل و

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ

و سلام فرستد به مهربانی خودت اے مهربان ترین جملہ مهربانان

عَلٰى مُحَمَّدٍ بَعْدَ اَنْفَاسِ الْمَخْلُوْقَاتِ ۝

بر محمد بعد به شمار انفس جملہ مخلوقات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ إِشْعَارِ الْمَوْجُودَاتِ

بارِ خدایا درود بفرست بر محمد به شمار موهائے جمله موجودات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِحْرُوفِ الدُّوْحِ

بارِ خدایا درود بفرست بر محمد به شمار حرف های نوشته بر لوح محفوظ

وَالدَّعَوَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ

و در جمله ادعیه بارِ خدایا درود بفرست بر محمد به شمار

مَا خُلِقَ فِي الْبُدَايَاتِ وَالنِّهَايَاتِ مِنْ

آن ها که پیدا کرده شدند در شروعات و انجام ها از

الْمَعْدُومَاتِ وَالْمَوْجُودَاتِ مِنْ أَوَّلِ

اشیائے معدوم و موجود از ابتدائے

أَزْلِهِ وَأَوْسَطِ حَشْرِهِ وَإِخْرَاقَائِهِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ

بیشکلی خودش و در میان حشر خودش و آخر ملاقات خودش و درود بفرست بر

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

بر بهترین مخلوقات و آنکه نام پاک و محمد است صلعم و بر آل و اصحاب و

أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تمامی آن ها به مهربانی خودت ای مهربان ترین جمله مهربان

اضمار حر ریبانی

(انہیں ۱۰۰ دفعہ یا کم از کم ۷ دفعہ پڑھیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

بنام خدائے بخشنائندہ مہربان

وَمِ السَّبْتِ :- لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّی

و ز شنبہ :- نیست بیچ معبود بحق مگر تو بہ پاکی یاد می کنم بہاکی یاد کردن تو بدرستی

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ -

من ہستم از جملہ ستم کنندگان

وَمِ الْاِحْدِ :- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ

ز یک شنبہ :- نیست بیچ معبود بحق مگر خدائے پادشاہ بر جائے آشکارا و ہویدا

وَمِ الْاِثْنِیْنِ :- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْجَبِیْلُ

ز دو شنبہ :- نیست بیچ معبود بحق مگر خدائے ارجمند بزرگ

يَا عَزِیْزُ يَا جَبِیْلُ -

اے ارجمند اے بزرگ

وَمِ الْاِثْنِیْنِ :- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و ز سہ شنبہ :- خدایا درود بفرست بر سیدنا محمد مصطفی صم

وَعَلٰی اٰلِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا

و بر آل و سلم بفرست سلام فرستادن بسیار بسیار

يوم الاربعاء:- لا اله الا الله خالصا مخلصا-

روز چہار شنبہ :- نیست ہیچ معبود بحق مگر خدا نے بے آئین پاک و خالص کنندہ

يوم الخميس:- لا اله الا الله خالق كل شئ و

روز پنج شنبہ :- نیست ہیچ معبود بحق مگر خدا نے آفرینندہ ہر چیز و

هو على كل شئ وكيل

او ہر چیز سپردہ شدہ کاراست

يوم الجمعة:- سبحان الله والحمد لله ولا اله الا

روز جمعہ :- بہ پاکی یاد می کنیم من بہا کی یاد کردن خدا را و تمامی سپاس و ستائش مگر خدا را بہت و

الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

نیست ہیچ معبود بحق مگر خدا و خدا بزرگ ترین است نیست ہیچ زور و نیست ہیچ طاقت مگر خدا نے بزرگ برتر-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنام خدائے بخشنائندہ مہربان

سَزَائِيْوْ - لَزَّرَعِيْ - زُوْشًا مِّنْوَعًا - عَالِمًا

۱۷۲ ۱۶۸ ۷۰ ۳۱۷ ۸۴

طِيُوْثُوْمًا سَلِيْحًا مَّيْلِيْحًا - مَلْحُوْمًا - يَاقِيُوْمًا

۱۵۷ ۲۱۷ ۶۸۱ ۷۰۱ ۵۸۲

اے اللہ تعالیٰ کے یہ دس اسمائے عظام حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عصائے مبارک پر لکھے

تھے قاری کو چاہئے کہ انہیں بہتر (۷۲) مرتبہ پڑھے اور نقش کو بوسہ دے۔ ۱۲-

حَقِّ كَهَيْعَصَ - وَبِحَقِّ حَمَسَقِ -

۲۸۷

۱۹۵

نَقْشِ ذُنُوءِ اسْمَائِةَ الْهَمِي مَنْدُجِبَالَا

۸	۱۷۸۹	۱۷۹۳	۱
۱۷۹۲	۲	۷	۱۷۹
۳	۱۷۹۵	۱۷۸۷	۴
۱۷۸۸	۵	۲	۱۷۹۲

دیگر

اسمائے عظام الہی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عصائے مبارک پر کندہ تھے :-

فِيُؤِخِ فَادِيخِ قِيُومِ قَادِرِ

ثَلِيُؤِخِ شَالِيخِ دِيُومِ صَالِحِ

نُورِ صَادِقِ اَرُشِيخِ نَارِ

یہ اسمائے عظام حضرت ابو العباس بونی کی تصنیف منبع اصول الحکمة مطبوعہ مصر سے نقل کئے گئے ہیں۔

مَنُوحِ يَادِخِ شَامِحِ عَظِيمِ

رَحْمًا قَادِرِ نُوخِ كَلُوحِ آه

يَايُوهِ شَاهِ شَلُوشِ رَهْدَخِ

شَرَاهِيَا شَرُوشِ شُوشِ عَالِ

عَيِّ قَوِي نَادِي كَبِيرًا

دُرُودِ شَرِيفِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَبِّكَ وَجَبِيكَ

بارخدا یا درود بفرست بر محمد بنده تو و نبی تو و حبیب تو

وَصَفِيكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الرَّحْمِيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ

و برگزیده تو و رسول تو بر آن نبی اُمّی و بر آل و

تَمَسِّكَ وَأَصْحَابَيْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِالْخَيْرِ

کتابه به نوشتی محمد صغیر نادری | و یاران دے و برکت بخش بر آن ها و سلام بفرست | خوش قسم جانم

كَبُرَيْتِ أَحْمَرَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنام خدائے بخشناننده مهربان

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبَدًا وَأَنْبِي

بارِ خدایا بساخت یعنی بفرست بزرگ ترین رحمت خودت همیشه و بالیدہ ترین

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَ

برکت ہائے خودت دائماً و پیوستہ و پاکیزہ ترین سلام ہائے خودت از روئے کرم و بزرگی و

مَدَدًا وَأَمُوءًا وَأَسْنَى سَلَامِكَ أَبَدًا

از روئے امداد و بطور تائید کردہ شہاد و روشن ترین سلام ہائے خودت از روئے ہمیشگی

مُجْدِّدًا عَلَى أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ

ساختہ شدہ نوبہ نو بر بزرگ ترین مخلوقات از نوع انسانی

وَالْجَانِّيَّةِ وَجَمْعِ الدَّقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَ

و از نوع جانی و جائے جمع شدن جمیع اسرار ایمانیہ و

طُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ

بر کوہ طور جلوه ہائے نیکو کاری و جائے نزول جملہ سر ہائے

ن مَعْدَانِ

ن الْحَقَائِقِ

ن عَدَدًا

کان

حقیقت ہائے

لہ بر صفحہ آئیدہ ملاحظہ فرمائید۔

الرَّحْمَانِيَّةَ وَعَرْوَسِ الْمَمْلَكَةِ الْقُدْسِيَّةِ

خدائے رحمان و بر نوشہ سلطنت قدسی

وَأَمَامِ الْحَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَوَاسِطَةِ

و بر امام درگاہ ربانی و بر بہترین گوہر

عَقْدِ النَّبِيِّينَ وَمَقَدِّمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ

سک انبیاء و بر اولین و اہم ترین لشکر رسولان

وَقَائِدِ رُكْبِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُكْرَمِينَ وَأَفْضَلِ

و بر رہنمائے لشکر سواران جمیع انبیاء بزرگ و بر بزرگ ترین

الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَاصِلِ لِيَوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى

جملہ مخلوقات تمامی بردارندہ علم جملہ عزت ہائے بزرگ و بر

وَمَالِكِ أَرْمَةِ الْمَجْدِ الْأُسْنَى ۝ شَاهِدِ

و بر آقائے جملہ زمام ہائے بزرگئے روشن ترین بر مشاہدہ کنندہ

أَسْرَارِ الْأَزْلِ ۝ وَشَاهِدِ الْأَنْوَارِ السَّوَابِقِ

بر ہائے ازلی (ربانی) و صاحب شہود جمیع انوار پیشینی و

(متعلقہ صفحہ گذشتہ) احسان کے متعلق حضور پروردگار کائنات کا ارشاد ہے کہ الاحسان ان تعبد ربك كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك (احسان یہ ہے کہ تو اپنے پروردگار کی بندگی اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر تو اسے نہ بھی دیکھتا ہو تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ ۱۲) لہٰذا در باب حضرت عمر فاروق نقل می کند کہ پیغمبر در تفسیر مقام محمود فرمودہ کہ نزدیک گرداندم اللہ و بہ نشاندہ با خود بر عرش۔ لفظ حدیث این است کہ ید نینی اللہ فیقعد فی معہ علی العرش ۱۲ (تفسیر حسینی در سورہ بنی اسرائیل)

الْأَوَّلِ وَتَرْجَمَانِ لِسَانِ الْقَدِيمِ ۝ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ

اولین آن باد تشریح کفندہ زبان قدیم و منقاعے که از دے

وَالْحَلِوِ وَالْحِكْمِ ۝ وَمَظْهَرِ السِّرِّ الْجُودِ الْجَرِيِّ

جاری جمیع علوم و تمامی علم و حکمت با و جائے ظهور اسرار بختش ہائے رحمانی کہ جزوی است

وَالْحِكْمِ ۝ وَانْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ

و نیز تمامی است و مردم چشم وجود بزرگ

وَالسِّفْلِ ۝ رُوحِ جَسَدِ الْكُوْنَيْنِ وَعَيْنِ

و کتر جان جسم ہر دو جہاں و چشمہ

حَيَوَةِ الدَّارَيْنِ الْمُنْتَخَقِ بِأَعْلَى رُتَبِ

زندگی ہر دو سرا آن کہ خو گرفت بہ بزرگ ترین مرتبہ ہائے

الْعِبَادِيَّةِ وَالْمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الْمَقَامَاتِ

عبودیت و آن کہ ثابت و درست شونڈہ است بہ سر ہائے مراتب

الْإِصْطِفَائِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ

برگزیدگی سالار جمیع صاحبان شرف و بزرگی و جمع کفندہ

الْأَوْصَافِ ۝ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ

جمیع صفت ہائے خوب و نیکو بزرگ ترین دوست خالص و محبوبے کہ

الْأَكْرَمِ نَبِيِّكَ الْعَظِيمِ وَرَسُولِكَ الْقَدِيمِ

بزرگ ترین است نبی تست کہ صاحب عظمت است و پیامبر تو کہ قدیم

لہ در حدیث آمدہ است کہ بُعِثَتْ لِأَتَمِّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ - ۱۲.

الْكَرِيمِ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝

و بزرگ است ہدایت کنندہ خاص (یعنی دعوت دہندہ) اوست بسوئے راہ راست

الْمُخْصَوِّصِ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ

اں کہ تخصیص کردہ شدہ است بہ بلندترین مرتبہ ہا و درجہ ہا

وَالْمُوَيِّدِ بِأَوْضَحِ الْبُرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ ۝

و امداد کردہ شدہ است بہ روشن ترین دلائل و راہ منائی ہا

الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ وَالْمُعْجَزَاتِ ۝ الْجُوهَرِ

نصرت دادہ شدہ بہ دبدبہ و معجزات بیش قیمت

الشَّرِيفِ الْاَبْدِيِّ وَالنُّورِ الْقَدِيمِ السَّرْمَدِيِّ

گوہر بزرگ دائمی و روشنی خاص قدیمی دائمی (بدوامیکہ لا انتہا و

الْمُحَمَّدِيِّ ۝ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِينَ

لا ابتداء محمدی مہتر ما و آقائے ما محمد آں کہ

الْمُحْمُودِ فِي الْاِيْجَادِ وَالْجُودِ وَالْوُجُودِ ۝

تعریف کردہ شدہ است در پیدائش و بخشش و ہستی

۱۔ سرمدی اں کہ نہ برائے او اول باشند نہ آخر کمانی تعریقات السید الشریف (مالا اول له ولا آخر له)
 ۲۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضرت رسالت پناہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ایسے جبریل آپ کی
 عمر کیا ہے؟ جو اب جبریل نے کہا کہ پیدائش کے ساتھ ہی میں نے حجاب عظمت کے چوتھے پردہ میں ایک روشن
 ستارہ دیکھا جو ہر ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا تھا میں نے اس ستارہ کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا۔ اس سے
 میری عمر کا قیاس کریں حضور نے فرمایا: وَعَزَّتْ رَبِّي اِنَّا ذَلِكُ الْكَوْكَبِ (از تفسیر روح البیان)
 ۳۔ واہ کیا خود و کرم ہے شہ لطیف تر "نہیں" سنائی نہیں مانگنے والا تیرا (شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی)

الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَشَاهِدٍ ۝ وَحَضْرَةٍ

فتح کننده ابواب برائے ہر طالب و مطلوب (یعنی مرید و مراد) و درگاہ

الْمُشَاهِدَةِ وَالشُّهُودِ ۝ نُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهِ

مشاہدہ و حضوری روشنی ہر چیز و دلیل آن

وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاءِ الَّذِي شَقَّقْتُ

و راز ہر رازے و بلندئی آن آن کہ شکافتہ شد

مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَأَنْفَلَقْتُ مِنْهُ الْأَنْوَارَ ۝

از دے جمد رازها و ظاہر شد از نور دے جملہ روشنی ہا

وَالسِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ

و راز پوشیدہ و روشنی ظاہر آن مہتر کہ

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ

کامل است فاتح است خاتم است اول است و نیز آخرین است ظاہر

الْبَاطِنِ الْعَاقِبِ الْخَاشِعِ النَّاهِي الْأَمْرِ

پوشیدہ پس آئندہ جمع کنندہ منع کنندہ از منکرات و حکم کنندہ برائے

النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَانِتِ

معرون نصیحت کنندہ امداد کنندہ صبر کنندہ شکر کنندہ فرمان بردار

الذَّاكِرِ الْمَاجِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ

ذکر کنندہ محو کنندہ (منکرات) بزرگ ذی عزت حمد کنندہ

المؤمن العابد المتوكل الزاهد القادر

صاحب ایقان عبادت کننده توکل کننده پرہیزگار قیام کننده

الساجد التابع الشهيد الولي الحميد

سجدہ کننده پیروی کننده (امر الہی) گواہ دوست ستودہ

البرهان الحجة المطاع المختار الخاضع

بیان واضح کلام مستقیم و برہان تقدا و پیشوا صاحب اختیار فرد تنی کننده

الخاشع البر المسننصر الحق المبين طه

تضرع کننده ہریان و فرماں بردار مدد داده شدہ ثابت ظاہر طہ

ليس المرمل المدثر سيد المرسلين

یس آنکہ کلیم بر خود پیچیدہ آنکہ جامہ بر خود پیچیدہ مہتر جملہ رسولان

وامام المتقين وخاتم النبيين و جيب

و امام جمیع پرہیزگاران و خاتم جمیع انبیاء و محبوب

رب العالمين . النبي المصطفى والرسول

پروردگار جملہ عالم با نبی برگزیدہ و پیامبر

المجتبي . الحكيم العدل الحكيم العليم

چیدہ منصف داد دہندہ صاحب حکمت دانا

له و يكون الرسول عليكم شهيدا (قرآن)

له "یس" تین مرتبہ پڑھیے۔

لَعَزِيزِ الْحَلِيمِ ۝ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ ۝ نُورِكَ

رجمند بر دبار بخشننده بسیار مهربان روشنی توست

لَقَدْ يَمُرُّ بِرَأْسِكَ الْمُسْتَقِيمِ ۝ سَيِّدِنَا

تدیجی و راه راست توست مهتر ما

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيكَ وَ

آن که نام پاک در محمد مصطفی است بنده توست و پیامبر توست و برگزیده توست و

خَلِيلِكَ وَحَبِيبِكَ وَوَلِيِّكَ وَنَبِيِّكَ وَ

دوست خاص توست و محبوب توست و یار توست و نبی توست و

مَعِينِكَ وَدَلِيلِكَ وَنَجِيكَ وَنُجْبَتِكَ وَ

یار توست و راهنمای توست و همراه توست و برگزیده توست و

أَخِي خَيْرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ ۝ إِمَامِ الْخَيْرِ وَ

برادر توست و برادر توست و برگزیده توست امام نیکی و

أَبِي الْخَيْرِ ۝ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ

پدر توست اعمال حسنه و پیامبر رحمت نبی

أُمِّي الْعَرَبِيِّ الْقُرَيْشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْأَبْطَحِيِّ

امی عربی قریشی هاشمی بطحانی

سَمِيِّ الْمَدَنِيِّ النَّهْأِيِّ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ ۝

نامی مدنی نهائی حاضر و گواه

الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ الْعَبْدِ الْمَسْعُودِ الْحَبِيبِ

یارِ قَرِیبِ بِنْدَه نیک بخت مَحْبُوبِ رَبَّانِی

الشَّفِيعِ الْحَسِيدِ الرَّفِيعِ الْمَلِيحِ الْبَدِيعِ

سَفارشِ كُنْدَه كَفایتِ كُنْدَه (یعنی بَسندَه) بَلند و پَرترِ خُوبصُورتِ عَجیب و نادر

الْوَاعِظِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ الْعَطُوفِ الْحَلِيمِ

نُصیحتِ كُنْدَه بَشارتِ دهنْدَه ترسانْدَه بسیارِ مهربان بُردبار

الْجَوَادِ الْكَرِيمِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الرَّؤُوفِ

سخی جوانِ مرد و بامرُوتِ پاك بابرکت بخشانْدَه

الرَّحِيمِ الْمُبَارَكِ الْمَكِينِ الصَّادِقِ الصِّدِّيقِ

بسیارِ مهربان برکتِ داده شده ذی عزّتِ راست گو نیكو و صالح

الْمُصَدِّقِ الْأَمِينِ الدَّاعِي إِلَيْكَ يَا ذُنُكَ

تصدیق کرده شده صاحبِ امانت و عزّت خواننده بسُوئے تو به اذن تو

السِّرَاجِ الْمُنِيرِ الَّذِي أَدْرَكَ الْحَقَّ

چراغِ روشن آن که كُنْه یافت جملَه حقیقت با را

بِحَمَّتِهَا وَفَاقَ الْخَلَائِقِ بِرَمَّتِهَا وَجَعَلَتْهَا

تَمامی آن با و برتر و اعلی شد بر جمیع مخلوقات جملَه آن با و کردی تو او را

حَبِيبًا وَنَاجِيَةً قَرِيبًا وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيبًا وَخَتَمْتَ

مَحْبُوبِ خود و سرگوشه کردی تو با او از رُوقب و نزدك ساختی تو او را از رُوقب حفاظت و ختم کردی تو

بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالَهَ وَالْبِسْرَارَةَ وَالنَّزَارَةَ

بذر بے توائی پیامبری ہر نوع در راہ نمائی ہر قسم و خوشخبری دادن و ترسائیدن

وَالنُّبُوَّةَ ۝ وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمْتَهُ

و نبوت ہر نوع و امداد کردی تو او را بہ سطوت و دبدبہ و سایہ کردی بر وی

بِالسُّحْبِ ۝ وَرَدَدْتَّ لَهُ الشَّمْسَ وَشَقَقْتَّ

بہ ابر ہا و واپس گردانیدی تو برائے او شمس را و شکافتی تو

لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقْتَّ لَهُ الضَّبَّ وَالظَّبْيَ وَالزَّبَّ

برائے وی ماہ را و گویا کردی تو برائے وی سوسمار را و آہو و گرگ

وَالجُدَّعَ وَالذِّرَاعَ وَالجَمَلَ وَالجَبَلَ وَالْمُدَّارَ

و تہ خرمہا و بازو و شتر و کوه و کلوخ

وَالشَّجَرَ وَأَنْبَعَتْ مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ الزُّلَّالَ

و درخت و جاری کردی تو از انگشت ہائے وی آب پاک را

وَأَنْزَلْتَّ مِنَ الْمُرْنِ بِدَعْوَتِهِ فِي عَامِ الْمُحَلِّ

و نازل کردی تو از ابر سپید بہ دعائے وی در سال قحط

وَالجُدُّبَ وَابِلَ الْغَيْثِ وَالْمَطْرَ فَاغْشَوْشَبَ

و تشکی باران بزرگ قطرہ و باران شدید پس سر سبز شد

مِنْهُ الْقَفْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ

از آن بیابان بے آب و گیاہ و زمین سنگناک و سخت و نرم و ریگستان

وَالْحَجْرَةَ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

و کوہستان و سیر کنا بندی تو او را بہ شب از مسجد ذی عزت (یعنی کعبہ شریف)

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى إِلَى

بہ سوتے مسجد اقصی (یعنی بیت المقدس) بہ سوتے آسمان ہائے بلند بہ سوتے

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

سدرۃ المنتہی بہ سوتے مقام "قاب قوسین" یا قریب تر از آن

وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَنْتَهُ الْغَايَةَ الْقَصْوَى

و بنمودی تو او را نشانی عظیمہ (یعنی معراج) و رسانیدی تو او را با عطا کردی تو او را

وَأَكْرَمْتَهُ بِالمُخَاطَبَةِ وَالمُرَاقَبَةِ وَالمُشَافَهَةِ

مقصود منتہی و معزز کردی بندگی تو او را بہ گفتگوئے باہمی و نگہبانی و حضورِ

والمُشَاهَدَةِ وَالمُعَايِنَةَ بِالبَصَرِ وَخَصَّصْتَهُ

و مشاہدہ جمال خود و نظر کردن بسوتے تو بہ چشم سر و خصوصیت بخشیدی تو او را

بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالمُشَفَاعَةِ الْكُبْرَى يَوْمَ

بہ وسیلہ بزرگ و عظیم و سفارش کردن کبیر در روزے

الْفُرَجِ الْكُبْرَى فِي المَحْشَرِ وَجَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ

ترس و زیم عظیم ترین باشد در محشر و جمع کردی تو برائے او جامع

الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الحُكْمِ وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ

کلمات و گوہر ہائے حکمت و گردانیدی تو اُمتِ دے را بہترین

الْأَمْرِ وَعَفَرَتْ لَهُ مَا لَقَدِمْنَا مِنْ دِينِهِ وَمَا

اُئْتَتْ بِهَا وَ نَحْتَابِيْدِي تُو اُوْرَا اَلْ كِه سَابِقِ كِذْشْتِ اَزْ كِنَاهِ وَ سَيِّءِ وَ اَنْجِه

تَاخَّرَهُ الَّذِي بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَآدَى الْإِمَانَةَ

پِس مَانْدِ اَلْ كِه رِسَابِيْدِ پِيَامِ اَلْهِي وَ اِدَا كِرْدِ اِمَانَتِ خُدَا وَ نَد

وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ وَجَلَّى الظُّلُمَةَ

وَ اِنْدَرَزْ فَرْمُوْدَ مَر اُئْتَتْ رَا وَ دُوْر كِرْدِ عِنْمِ هَارَا وَ رُوْشَن كِرْدِ تَابِيْ كِي رَا

وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى

وَ مَجَاهِدِه كِرْدِ دَر رَاهِ خُدَا وَ عِبَادَتِ كِرْدِ مَر پَر پَر دِ كَارِ خُوْدَش رَا

أَنَّهُ الْيَقِينُ ۝ اللَّهُمَّ مَقَامًا حَمِيدًا

تَا اَنْكِه اَدْبَاؤُ مَوْتِ بَارِ خُدَا يَا بَرَسَا اُوْرَا بِه مَعْتَمِ سَتُوْدِه شَاهِدِ

الَّذِي يَغِيْطُهُ فِيهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ۝

اَنْكِه رِشْك كِنْدِ اُوْرَا دَر اَلْ پِشِينِيَا وَ پِس اَنْبِيَا كَانِ

اللَّهُمَّ عَظِيْمَةً فِي الدُّنْيَا بِاعْلَاءِ ذِكْرِهِ

بَارِ خُدَا يَا بَزْرِك كِرْدِ اُوْرَا دَر اِيْنِ جِهَانِ بِه بَلَنْد كِرْدِنِ ذِكْرِ وَ سَيِّءِ

وَإِظْهَارِ دِيْنِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ

وَظَاهِر كِرْدِنِ (بِعْنِي غَلْبِه دَاوِنِ) دِيْنِ وَ سَيِّءِ رَا وَ بَقَا تِي دَاشْتِنِ شَرِيْعَتِ وَ سَيِّءِ دَر اَلْ جِهَانِ

بِقَبُولِ شَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِجْرَالِ أَجْرِهِ

بِه قَبُوْلِ كِرْدِنِ شَفَاعَتِ وَ سَيِّءِ دَر حَقِ اُئْتِ خُوْدَش وَ زِيَادِه كِرْدِنِ اَجْرِ وَ سَيِّءِ

اَبُوْرُوْلِ
اَجْرِهِ

وَمَتُوبَتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضْلِهِ عَلَى الْأُولَى

و ثواب دے و ظاہر کردن بزرگئے دے بر جملہ نخستیاں

وَالْآخِرِينَ بِالسَّمَاءِ الْمَحْشُودِ وَتَقْدِيرِهِ

پیشواں بہ "سماء محمود" و پیشواں ارگردان دے

عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالشَّهَادَةِ ۝ اللَّهُمَّ

جملہ مقربین بارگاہ خودت بہ حضوری بارِ الہا

تَقْبَلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا

قبول کن شفاعت عظیمہ دے و بلندگرواں مرتبہ بلندش

وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى لِمَا آتَيْتَ

عطا کن اورا سوال دے درآں جہاں و این جہاں چنانکہ دادی تو

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ

ابراہیم و موسی (علیہم السلام) بارِ الہا بگرداں اورا از جملہ

أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ

شرف ترین بندگان خودت بہ نزد تو از دوائے بزرگی و از جملہ بلندترین آن ہا

دَرَجَةً وَأَعْظَمِهِمْ خَطَرًا وَأَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ

از دوائے مرتبہ و عظیم ترین آن ہا از دوائے شان و معزز ترین آن ہا بہ نزد تو

شَفَاعَةً ۝ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بَرَهَانَہُ وَثَقِّلْ

از دوائے شفاعت بارِ الہا بزرگ گرداں دلیل واضح اورا و گراں کن

مِيزَانَهُ وَأَبْلِجِ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَأْمُولَهُ فِي

ترازوی اُورا و روشن کن دلیل اُورا و برساں اُورا بہ مقصود وے درجہ

أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْحَابِهِ

اہل بیت وے و اولاد وے و خاندان وے و یاران وے

وَأَصْهَارِهِ ۝ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ

و جمع قرابت داران وے مثل داماد و خسر و غیر بار خدایا برساں اُورا از اولاد وے و اُمت وے

مَا تَقَرَّبَ عَيْنُهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ

آنچه خاک گردد باں ہا چشم وے و جزا بہ بخش اُورا از ما بہترین آنچه بدلہ دادی تو

بِهِ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ وَأَجْرَ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ خَيْرًا ۝

باں پیغمبری را از اُمت وے و بدلہ بدہ جمع پیغمبران را بہ نیکی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

بار خدایا رحمت بفرست و سلام برساں بر مہتر ما کہ نام پاک وے محمد است بشمار

مَا شَهِدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ الْأُذُنُ وَ

آن کہ دیدند آن را چشم ہا و شنیدند آن را گوش ہا و

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ

دُرود بفرست و سلام برساں بر وے بشمار آنان کہ دُرود فرستند بر وے و

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

دُرود بفرست و سلام برساں بر وے بشمار آنان کہ دُرود نہ فرستند بر وے

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ مَا تَحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ

دُرُودِ بَفَرَسْتِ وَسَلَامِ بَرَسَاں بِرُوئے چُخَاں کہ تُو پَسَنَدِیْدِی وِرَاضِی شَدِی اِیْنِ کہ

يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ مَا أَمَرْنَا أَنْ

دُرُودِ فَرَسَاَدَه نُوَاہِد شَدِ بِرُوئے وِ دُرُودِ بَفَرَسْتِ وَسَلَامِ بَرَسَاں بِرُوئے چُخَاں کہ حُکْمِ فَرَمُوْدِی تُو مَارَا

صَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَتَّبِعِي

بِنِکَہِ دُرُودِ بَفَرَسْتِ بِرُوئے وِ دُرُودِ بَفَرَسْتِ وَسَلَامِ بَرَسَاں بِرُوئے چُخَاں کہ مَنَزَاوَارَا سَتِ اِیْنِ کہ

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ

دُرُودِ فَرَسَاَدَه نُوَاہِد شَدِ بِرُوئے بِاِ رِ خُدَا يَا دُرُودِ بَفَرَسْتِ وَسَلَامِ بَرَسَاں بِرُوئے وِ

عَلَىٰ آلِهِ عَدَدُ نِعْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَفْضَالِهِ

بِرِ آلِ وِے بِہ شَمَارِ نِعْمَتِ ہائے خُدَا وِنْدِ تَعَالَىٰ وِخُشْشِ ہائے خُوْدِش

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

بِاِ رِ خُدَا يَا دُرُودِ بَفَرَسْتِ وَسَلَامِ بَرَسَاں بِرُوئے وِ بِرِ آلِ وِے وِ یَا رَاں وِے

وَأَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَ

اَوَّلَادِ وِے وِ اَوَّلَادِ اَوَّلَادِ وِے وِ زَوْجِ ہائے وِے وِ ذُرِّيَّتِ وِے وِ

أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَسِيرَتِهِ وَأَصْهَارِهِ

ہِلِ بَیْتِ وِے وِ خُویشَانِ وِے وِ خَاَنْدَانِ وِے وِ قُرَابَتِ دَاِرَانِ وِے

وَأَحْبَابِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ

وِ اَحْبَابِ وِے وِ اَخْتَانِ وِے وِ اَتْبَاعِ وِے وِ اَشْيَاعِ وِے

وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةَ اسْرَارِهِ وَمَعَادِينَ أَنْوَارِهِ

و مددگاران، او که امینان سترهائے او اند و کان هائے انوار او

كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ الْخَلَائِقِ وَنَجْوَى

خزینہ هائے حقیقت ها و رهبران مخلوقین دستارگان

الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِمْ وَسَلَامٍ وَسَلِيمًا

هدایت یافتن برائے آل که پیروی کند آنها را و سلام برساں سلام رسانیدن

كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَارْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ

زیاده همیشه پیوسته باشده و راضی شو از جمله یاران فے از روائے

رِضًا سَرْمَدًا عَدَدِ خَلْقِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ

راضی شدن پیوسته به شمار مخلوقات خودت و وزن عرش خودت

وَرِضَى نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى

و رضائے ذات خودت به شمار سیاهی که باں کلمات خودت نوشته باشده و به غایت

عَلَيْكَ كَلِمًا ذَكَرَكَ ذَاكِرًا وَكَلِمًا سَهَى عَنْ

علم خودت بر آن که ذکر ترا کند ذکر کننده و بر آن که سهو کند از

ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَوةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَى وَ

ذکر تو غفلت کننده درودے که باشد مر ترا باعث خوشنودی و

لِحَقِّهِ آدَاءٌ وَلِنَاصِلِحَاتِهِ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ

برائے حق خودش ادائیگی و برائے مانیکوئی و عطا بجن او را وسیله و بزرگی

وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ

در مرتبه بلند و برتر و اعلیٰ و برساں اور ابہ "مقام"

السُّعُودَ وَاللِّوَاءَ السُّعُودَ وَالْحَوْضَ الْمُرُودَ

"سُعُود" ویدہ اور اعلم عقد کردہ شدہ و حوضے کہ برآں مخلوقات گرد آئند

وَحَصِّلْ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

رحمت بفرست اے پروردگار مینی بر تمامی برادران سے از جنس انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ

و پیغمبران و دوستان خود و مردان نیکوکار و شہیدان

وَالصِّدِّيقِينَ وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ

و صدیقان و بر فرشتگان خود کہ تقرب یافتہ اند و

عَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ

بر مہتر ما شیخ محی الدین عبد القادر

الْحَبْلَانِي الْأَمِينِ الْمَكِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

حبلائی آنکہ امانت دار و ذی وقار است رحمت خداوند و سلام او باشد

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بر آل ہا تمامی بارِ خدایا درود بفرست و سلام برساں بر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورَةَ الرَّحْمَةِ

مہتر ما کہ نام پاکِ ہے محمد است کہ سبقت کردہ است بر مخلوقات نور ہے و سراپا شفقت است

لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَا مَضَى مِنْ خَلْقِكَ

جملہ عالم ہا را ظاہر شدن او بہ شمار آں کہ گذشتہ از مخلوقات خود است

وَمَا بَقِيَ وَهَمِنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ

وآں کہ باقی است و آں کہ نیک بخت شد از آں ہا و آں کہ بد بخت شد

صَلَاةً تَسْتَعْرِقُ الْعَدَّ وَتَحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً

درودے کہ غرقہ شود شمار دروے و احاطہ کند حد را درودے کہ آں

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءً وَلَا أَمَدًا لَهَا

نہایت نہ باشد و نہ او را آخر باشد و نہ باشد اندازہ آں را و نہ باشد

لَا الْاِقْضَاءَ صَلَوَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً

نامہای آں را درود خودت آں کہ فرستادی تو خود بروے درودے کہ

مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُولَةً لَدَيْهِ صَلَاةً

پیش کردہ شدہ بود بروے قبول کردہ شدہ بہ جناب آں مہتر درودے

دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبِقَائِكَ

ہمیشہ باشندہ بہ دوام خودت باقی باشندہ بہ بقائے خودت نباشد

لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَاةً تَرْضِيكَ

آں را هیچ حدے سوائے علم خودت درودے کہ راضی بکند ترا

وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا صَلَاةً تَمْلَأُ

و راضی بکند او را و راضی می شوی بوسیله آں درود از ما درودے کہ پر کند

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ صَلَوَةٌ تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ

زمین و آسمان را درودے کہ حل می شود گره ها بوسیله آن

وَتَفْرِجُ بِهَا الْكُرْبُ وَيَجْرِي بِهَا لُطْفُكَ

و کشاده می شود به سبب آن درود اضطراب ها و بیماری می شود به سبب آن درود عنایت تو

فِي أَمْرِي وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَبَارِكْ لَنَا

در امر من و جمله معاملات مسلمانان و برکت به بخش ما را

عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَاصْدُدْنَا

همیشه همیشه و عافیت بده ما را و هدایت به بخش ما را و بدد بکن ما را

وَاجْعَلْنَا آمِنِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ

و بساز ما را امن یا قنکال و آسان بکن برائے ما جمله کارهائے ما به راحت

لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي

برائے دل هائے ما و اجسام ما و به سلامتی و عافیت در

دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ

دین ما و دنیائے ما و آن جهان ما و وفات بده ما را بر ایمان بر کتاب

وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

و سنت رسول اللہ و رفیق گرداں ما را با آن سرور در جنت بدون

عَذَابٍ أَبْيَسٍ مَعَ كُلِّ شَفِيقٍ وَأَنْتَ

عذاب دردناک به معیت هر مهربان و غم خوار حایک تو

رَاضٍ عَنَّا غَيْرُ غَضِبَانَ وَلَا تَسْكُرُ بِنَا وَاخْتِمُ

راضی باشی از ما نه غضب ناک و نه فریب بکن به ما و اختتام بکن

لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا حِنَّةٍ أَجْمَعِينَ

ما را از جانب خودت به نیکوئی و عافیت، که اندر ال بیچ مشقت، نه باشد برائے ما تمامی

خَتَمَ اللَّهُ لَنَا بِالْحُسْنَىٰ هُوَ مَوْلَانَا نِعْمَ الْمَوْلَىٰ

انجام بکند اللہ برائے ما به خوبی مرا دوست آقا و مولائے ما نیکو خداوند است

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

و نیکو مددگار است پاکبست پروردگار ترا خداوند غلبه

عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

از آنچه این جماعت بیان می کنند و سلام بر فرستادگان خدا

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ

و مر سپاس خدا را است پروردگار عالم ها و درود فرستد اللہ بر

خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

بهترین مخلوقات خودش مهتر ما که نام پاک وے محمد است و بر آل وے و یاران وے

أَجْمَعِينَ ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تمامی به رحمت خودت آے مهربان ترین جمله مهربانان

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

تمام شد مع النخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بنام خدا نے بخشایندہ مہربان

یا جیب الاله خذ بیدی

ما العجزی سوالک مستند

یا شفیع الوری الی الصم

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

یا جیب الاله خذ بیدی

ما العجزی سوالک مستند

یا شفیع الوری الی الصم

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

لیس یا سیدی الی الاحکام

استغیثوا العاجز مضطرب

اے بندگان خدا برائے مدد میں مسکین و حاجت مند بننا سے مصیبت پائیے

شیر و اذیلكم الی المدد

مکرتہ و چست باشد برائے نصرت من



فراخی رزق کے لئے

ماز کے بعد پانچ مرتبہ یہ دعا پڑھیے :-

اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُوَعِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ

بار خدا یا اے خداوند پادشاہی می وہی پادشاہی ہر کرا خواہی

مَنْ تَزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ

ر می گیری پادشاہی از ہر کہ خواہی وار جندی سازی ہر کرا خواہی و

تَزِيلُ مَنْ تَشَاءُ طَيِّبًا كَالْخَيْرِ طَرَانِكَ عَلَى

ر می سازی ہر کرا خواہی بدست تست نیکی ہر آئینہ تو بر ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ

انا ہستی در می آری شب را در روز و در می آری

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

را در شب و پیروں می آری زندہ را از مردہ

تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

بیروں می آری مردہ را از زندہ و روزی می دہی ہر کرا خواہی

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بے شمار

حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی قدس سرہ العزیز نے دفع ضرور فائدہ کیلئے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کر دے
عشہ آیت اللہ سے صنم گزشتہ آیت گذشتہ
آد کے آنکھ ہمہ ما تازہ بنیم